

تین حصے
کابل

اعمال قرآنی

از: حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
مع جدید اضافات
حوالہ جات قرآنی - بسم اللہ اور درود شریف کے خواص
از: مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

ہر قسم کے عملیات و تعویذات اور وظائف کی مشہور و مقبول کتاب
جس میں ہر عمل کے ساتھ قرآنی آیات کے سامنے سورت کا نام اور آیت نمبر
درج کیا گیا ہے اور سابقہ نسخوں کی اغلاط درست کی گئی ہیں۔

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱ فون ۲۶۳۱۸۶۱

يُحَمِّدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اعمال قرآنی

تین حصے
کامل

از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مع جدید اضافات

حوالہ جات قرآنی۔ بسم اللہ اور درود شریف کے خواص

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

ہر قسم کے عملیات و تعویذات اور وظائف کی مشہور و مقبول کتاب جس میں
ہر عمل کے ساتھ قرآنی آیات کے سامنے سورت کا نام اور آیت نمبر
درج کیا گیا ہے اور سابقہ نسخوں کی اغلاط درست کی گئی ہیں

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار - کراچی ۷

فون ۲۶۳۲۸۶۱

صحیح ترین ایڈیشن

باہتمام : فطیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : فکیل پریس کراچی۔
صفحات : ۱۶۰

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ امدادیہ فی بی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 26 ناہیہ روڈ لاہور
کشمیر ہاؤس۔ چلیوٹ بازار فیصل آباد
کتب خانہ شہید۔ مدینہ مارکیٹ دلچہ بازار دادالپنڈی
یونورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور

فہرست مضامین اعمال و تدراتی کامل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱	برائے قبولیت دعا	۱۷	پھل کی شیرینی کے لیے دعا
"	برائے مغفرت گناہ	"	برائے دفع ناراضگی حاکم
"	برائے دفع بخار	"	برائے شئی گم شدہ
"	برائے دفع ہول دل	"	برائے دفع ناراضگی شوہر
۲۲	برائے محبت	"	برائے دفع ناراضگی حاکم
"	برائے نفع تجارت	۱۸	برائے دفع شیطان
"	برائے حصول شفاعت	"	برائے حفاظت از دزداں
"	برائے دفع بد خوابی	"	اسم اعظم
"	برائے دفع سحر	"	برائے سلامتی ایمان
۲۳	برائے سفر دریا	"	برائے ادائے قرض
"	برائے اطاعت غلام	۱۹	برائے اولاد
"	برائے استقامت قلب	"	برائے دفع شوخی جانور
"	برائے حب	"	برائے کشائش رزق
"	برائے دفع خوف	"	برائے دفع مصیبت
۲۴	برائے حفاظت حمل	۲۰	برائے مقبولیت دعا
"	برائے حفاظت رعد و برق	"	برائے شفاء امراض
"	برائے دفع ہول دل	"	برائے نجات از ظالمان
"	برائے سفر	"	برائے محبت
"	برائے دفع ہر درد	"	برائے تفریق
"	برائے حفاظت درندگان	۲۱	سورۃ النعام

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹	برائے مہربانی حاکم	۲۲	برائے روشنی قلب
"	برائے زیادتی رزق	"	برائے محبت
۳۰	برائے حفاظت از آفات	۲۵	برائے ترقی علم
"	برائے نجات از ورغ	"	برائے دفع ہمزادیت
"	برائے دفع نافرمانی اولاد	"	برائے دفع بخار
"	برائے نور چشم	"	برائے دفع بلا
"	برائے اولاد	"	برائے دفع مصیبت
۳۱	برائے دفع بھوک	"	برائے اولاد
"	برائے دفع دردِ سر	۲۶	برائے حفاظت حمل
"	برائے نورِ حسین در قیامت	"	برائے دفع وساوس شیطانی
"	اسمِ اعظم	"	برائے داخلہ شہر
"	برائے فراخی رزق	"	برائے دفع آسیب
۳۲	برائے نجات از عذاب قبر	"	برائے دفع زہر جانور
"	برائے حاجت روائی	۲۷	برائے دین داری
"	برائے دفع نظر بد	"	برائے دفع چیونٹیاں
"	برائے قضاے حاجات	"	برائے داپسی گریختہ
۳۳	برائے دفع آسیب	۲۸	برائے قبولیت نماز
"	برائے کشائش رزق	"	برائے دفع طحال
"	برائے دفع رجعت عمل	"	برائے دفع ناف
"	برائے آسانی ولادت	"	ثواب ختم قرآن
"	برائے بصارت	"	برائے محبت
"	برائے نصف قرآن	۲۹	برائے اخراج ظالم
۳۴	دعاء مقابر	"	برائے ہر مرض

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰	برائے حفاظت از ہر بلا	۳۳	درد رسول مقبولؐ
"	برائے غلبہ بردشمن	"	تہائی قرآن کا ثواب
۳۱	برائے امن و حفاظت	"	برائے دفع بخار
"	برائے برکت دفع جانوران موزی	۳۵	تجویزات مفید عام
"	برائے دفع مرگی	"	برائے دفع چھچک
۳۲	برائے درد ڈاڑھ	"	برائے حفاظت از ہیضہ
"	برائے شجاعت و دفع دشمن و سحر	۳۶	برائے حفاظت اولاد
۳۳	برائے امن و خوف، آبرو نرو حکم وغیرہ	"	برائے دفع بلا و مصیبت
۳۴	برائے حفاظت از آشوب چشم	"	برائے تب و لرزہ
"	برائے زیادتی حافظہ و حصول علم	"	برائے آسانی ولادت
"	برائے حفاظت از زورندہ و آسیب شفا	۳۷	برائے دفع زخم و بھوڑے
۳۵	برائے تباہی دشمن	"	برائے دفع آماس گلو
"	برائے حفاظت زراعت و باغ	"	برائے دفع بواسیر
۳۶	درختوں کے پھلنے کے لئے	۳۸	برائے دفع زہر سگ دیوانہ
"	برائے کشف علوم و تسخیر جن	"	برائے حاجت روائی
"	برائے کشف راز زن خفتہ	"	برائے تب و لرزہ
۳۷	برائے دفع تشنگی	۳۹	برائے حصول جاہ و منزلت
"	اچھا سودا ملنا	"	برائے قضاائے حاجت
"	راز معلوم کرنا	"	برائے حفاظت مال و اولاد
"	دفعینہ معلوم کرنا	"	برائے تب و دق
۳۸	برائے دفع مرض جانوراں	۴۰	برائے دفع شیطان و ظالم
"	برائے دفع قساوت قلب	"	برائے حفاظت زراعت
"	برائے اصلاح بادشاہ	"	حروف مقطعات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۵	برائے دفع خفقان	۴۸	برائے افزونی شیر جانور
"	برائے تسخیر و قبول قول	"	برائے افزونی آب کنواں و نہر
۵۶	برائے فسخ بردشمن	۴۹	برائے دفع سحر و نظر بد
"	برائے دفع خوف و جن نظام بادشاہ	"	رات میں جاگنے کے لئے
"	برائے دفع تیزی نفس و شر ظالم	"	برائے دفع خودنی بواسیر
۵۷	برائے دفع تکسیر	۵۰	برائے دفع قولنج و لقوہ و ریاح
"	برائے حفاظت از حاکم جابر	"	برائے واپسی مال مسروقہ
"	برائے ثبات ایمان	"	مومذی جانوروں کو مارنے کے لئے
"	برائے غلبہ بردشمن	"	برائے غلبہ بردشمن و حصول جاہ
۵۸	برائے دفع کندہ منی و شر ظالم	۵۱	برائے رزق و صحت و حفاظت از آفات
"	برائے تفریق ناجائز اجتماع	"	برائے بربادی دشمن
"	برائے وسعت رزق و دفع گرسنگی	۵۲	برائے دفع داد
۵۹	برائے حفاظت مویطی از جملہ آفات	"	برائے دفع آسیب ام الصبیان
"	برائے امن و دفع آفات	۵۳	برائے جاہ و قبولیت و حفاظت دشمن
"	برائے دفع غضب و تشنگی و رنج	"	برائے قوت حافظہ و ذہن
"	برائے دفع ذات الجنب و درد	"	برائے وسعت رزق و ادائے دین
۶۰	برائے دفع امراض چشم	"	برائے حصول کیمیا و علوم مخفیہ
"	برائے خانہ دیرانی ظالم	۵۴	برائے اطلاع دقینہ و خزانہ
"	برائے دفع چھرو پستو	"	برائے درستی دنیا و آخرت
"	مشتبہ کار از معلوم کرنا	"	برائے حفاظت حمل
"	برائے سماع اخبار عجیبہ	۵۵	برائے حفاظت بچہ و کثرت شیر
۶۱	برائے سکون طینیانی دریا	"	برائے کثرت رزق
"	برائے واپسی چورو گر بختہ	"	برائے کاروبار و پیغام نکاح

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	برائے دفع بھوک	۶۱	برائے مقبولیت حکام و عوام
"	برائے قبولیت دعا	"	برائے بربادی دشمن
"	برائے دفع تکان	۶۲	برائے حفاظت زراعت
۶۸	برائے شفاۓ حمی مطبقہ	"	برائے حفاظت کشتی
"	برائے ہلاکت ظالم	"	برائے حاجت روائی و وجاہت
"	برائے دفع فالج و زلزہ	"	برائے برکت درخت و پھل
"	برائے محبت و ہیبت	۶۳	برائے تسکین طوفان و بچاؤ ظالم
"	برائے آسانی کار	"	راز معلوم کرنا
"	برائے ترقی حکومت و حل مشکلات	"	برائے قبولیت دعا
"	برائے غلبہ بر شہوت نفسانی	۶۴	برائے ترقی پھل و حفاظت جانور
"	برائے عزت و انکساری	"	برائے حفاظت از شیاطین فالج و نفوہ
۶۹	برائے دفع شک و تردد	"	شب میں جاگنے کے لئے
"	برائے امن از شیاطین	"	بھائے حفاظت دکان مکان مال و اسباب
"	برائے جملہ مشکلات و انکشافات	"	برائے حفاظت نظر بدوشر
"	برائے ترقی علم و برکت زراعت	"	برائے رزق و زیادتی روزگار
"	برائے دفع خوف	۶۵	برائے توفیق توبہ و اطاعت
۷۰	برائے کشادگی رزق و حاجت روائی	"	برائے دفع زہر و چشم بدو سحر
"	برائے دفع مصیبت	"	برائے امانہ میعاد قید ظالم
"	برائے مقبولیت	"	برائے اتفاق مخالفین
"	برائے دوام نعمت	"	برائے شفا و جمع قلب
"	برائے دفع خشکی در و سر اور نسیان	۶۶	برائے حفاظت و برکت درختاں
"	برائے انکشاف امر مخفی	"	برائے حفاظت از جانور ان موذی
"	برائے لرزہ قلب و خیالات فاسدہ	"	جنت میں داخل ہونے کی بشارت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۷	برائے محبت زوجہ و ترقی روزگار	۷۱	فائدہ متعلقہ دوسرے
۷۸	برائے دفع امراض چشم	"	برائے دفع قسادت قلب
۷۹	برائے رہائی از قید	۷۲	برائے حفاظت
"	برائے معزولی عالم ظالم	"	برائے تالیف قلوب و عزت
"	برائے آبادی و ترقی مکان و دکان	"	برائے اندیشہ و تخفیف
"	برائے دفعینہ و حال مرین	"	برائے دفع بخار
۸۰	برائے ہلاکی دشمن ظالم	۷۳	برائے تسخیر قلب
۸۱	برائے گریہ اطفال و نظربد	"	برائے عزت و جاہ
"	برائے درد ہاتھ پیر و نظربد	"	برائے واپسی چور و گریختہ
"	برائے نظربد	"	برائے قصائے حاجات و مہمات
"	برائے دفع پستو	۷۴	برائے شناخت چور
"	برائے دفع موذی جانور	"	برائے جاہ و عزت و تسخیرات
۸۲	برائے تباہی و بربادی ظالمان	۷۵	برائے درد شکم و خفقان
"	برائے حفاظت از آفات	"	برائے آسانی ولادت و کشادگی رزق
"	برائے افزودنی شہیر عورت	"	برائے دفع خفقان و اختلاج قلب
"	برائے برکت	۷۶	برائے دفع سحر
"	برائے حفاظت جان و مال	"	برائے شفاء امراض
۸۳	برائے جاہ و قبول عام	"	برائے قوت و غلبہ بر دشمنان
"	برائے برکت رزق و زراعت و باغ	"	برائے کشادگی ذہن و علم و حافظہ
"	برائے تباہی باغ	۷۷	برائے کشتی حفاظت از آفات
"	نشانہ خلمانہ ہونے کے لئے	"	برائے حفاظت از ظالم و جانور موذی
"	برائے کشادگی زبان	"	برائے امراض اطفال
"	برائے ازالہ خوف	"	برائے رزق و آبرو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	برائے مقبولیت	۸۳	برائے دفع آسیب
"	برائے حفاظت کشتی	"	برائے جملہ امراض
"	برائے دفع آسیب	۸۴	برائے دفع غم و خیالات فاسدہ
"	برائے حفاظت از اختلام	"	برائے دفع محتاجی و قرضہ
"	برائے زبان بندی	"	برائے ترقی مددخت و پھل
۹۰	برائے مقبولیت عوام	۸۵	برائے تباہی دشمن موزی
"	برائے آشوب چشم	"	برائے نیر و برکت و نیک خواب
"	برائے حفاظت از جانور موزی	"	برائے قرار حمل
"	برائے دریافت و قبینہ	۸۶	برائے درخت خرماد غیرہ
"	برائے دفع ساپ کچھو و موزی جانور	"	برائے رتبہ دشان
۹۱	برائے دریافت حال ناظم	"	برائے ترقی عزت و آبرو
"	برائے دریافت بھلائی برائی	"	برائے جاہ و قبولیت
"	برائے دفع خیانت غلام	۸۷	برائے پھوڑا پھنسی
"	برائے امراض شکم	"	برائے شادی و بیماری
"	برائے حفاظت از بشر	"	برائے دفع بد خوابی
"	برائے حفظ و ترقی علم و فہم	"	برائے تباہی ظالم
۹۲	برائے حصول کامیابی	"	برائے حفاظت حمل و بچہ
"	برائے چوتھید	۸۸	برائے آسانی ولادت
"	برائے دفع غم	"	برائے درد و بخار
"	برائے بیماری ظالم	"	برائے خانہ ویرانی ظالم
"	برائے دہشت و غلبہ بردشمن	"	برائے ہلاکت ظالم
"	برائے امراض شکم	"	برائے ترک شراب نوشی
۹۳	برائے سکون طوفان دریا	۸۹	برائے حمل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۶	برائے محبوبیت	۹۳	برائے دفع بخار، درد سر و مرگی
"	برائے دفع امراض	"	برائے کثرت پیغام نکاح دختران
"	برائے روزی	"	برائے عزت و آبرو
"	برائے فتح	"	برائے ویرانی دشمن
"	برائے مقبولیت و دفع آسیب	۹۳	برائے حفاظت از آفات و برقان
"	برائے آسیب	"	برائے حفاظت جانور
"	برائے حفاظت حمل و افزونی شیر	"	برائے برکت تجارت
"	برائے دائمی دولت	"	برائے قوت حافظہ و غلبہ
۹۷	برائے نشو و نما، درخت و برکت	"	برائے افزونی شیر عورت
"	برائے دفع خوف و درد شکم	"	برائے دفع نظربد
"	برائے آسانی دندانِ طفل	"	برائے غلبہ بردشمن
"	برائے تحقیق مرض	"	برائے حفاظت از چود
"	برائے آسانی ولادت	"	برائے دفع نزاع
"	برائے رہائی از قید	۹۵	برائے دفع آسیب
"	برائے امن سفر	"	کنواں و چشمہ کھودنے کے لئے
۹۸	برائے قتل کرشمہ	"	برائے محبوبیت و مقبولیت
"	برائے مخلوبیت	"	برائے حفاظت از ظالم
"	برائے وجاہت	"	برائے امراض چشم
"	برائے آشوب چشم و طحال وغیرہ	"	برائے حفاظت از شر
"	برائے سانپ و کچھو	"	برائے دفع کھانسی
"	برائے آسانی ولادت	"	برائے دفع پیچش
"	برائے دفع گرسنگی و تشنگی	"	برائے حفاظت بچہ
"	برائے حفاظت تیر و تیغ	۹۶	برائے دفع جن و شر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۱	برائے کشادگی زبان	۹۸	برائے دفع بخار و درم
"	برائے دفع ذہل	"	برائے سکون و مرض
"	برائے حفاظت شرعاً	۹۹	برائے حفاظت غلہ
"	برائے بچاؤ از دشمن	"	برائے ذہانت
"	برائے حفاظت راستہ	"	برائے دفع درد
"	برائے تقویت چشم	"	برائے دفع لہال
"	برائے رہائی قید و دفع بخار	"	برائے قبولیت عوام
۱۰۲	برائے دفع دیک	"	برائے حفاظت و برکت
"	برائے تسکین نیش	"	برائے آشوب چشم و ذہل
"	دودھ پھڑانے کے لئے	"	برائے زبان بندی دشمن
"	برائے حفاظت ضرر دوا	"	برائے حفاظت از ظالم
"	برائے گونج درکان و بواسیر	"	برائے تدبیر روزی
"	برائے اولاد زینہ	۱۰۰	برائے سکون مرض مرگی و درد
"	برائے حفاظت طعام	"	برائے آشوب چشم
"	برائے ولادت بچہ نیک	"	برائے فقر و فاقہ
"	برائے حفاظت از جانور ان موذی	"	برائے حفاظت حمل
"	برائے دفع مرگی و بیہوشی و بخار	"	برائے حفاظت بچہ و آفت
۱۰۳	برائے واپسی گم شدہ	"	برائے دفع احکام
"	برائے درد قلب	"	برائے حاجت روائی و دفع غم
"	برائے دفع پتھری	۱۰۱	برائے رہائی از قید
"	برائے حفاظت غلہ	"	برائے وسعت رزق
"	برائے حفاظت سفر	"	برائے حفظ قرآن
"	برائے محبت	"	برائے رقت قلب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۷	برائے دفع مشقت روزی	۱۰۳	پس بولنے کے لئے
"	برائے قضا حاجات	"	برائے دفع یرقان
"	برائے بیمار و خوف زدہ	"	برائے دفع لقوہ
"	برائے حاجت روائی	"	برائے آسانی معاش و امن از خوف
"	برائے مسرت و فرحی	"	برائے وسعت روزی
"	برائے قضا حاجات	۱۰۴	برائے دفع درد شقیقہ
۱۰۸	برائے مقبولیت دعا	"	برائے دفع وینہ
"	برائے خیر	"	برائے دفع نظر بد
"	برائے غلبہ	"	برائے حفاظت دشمن
"	برائے حفاظت از شر	"	برائے دفع درد گردہ
"	برائے دفع کلنی	"	برائے حفاظت
"	برائے قضا حاجت	"	برائے زیارت رسول مقبول
"	برائے غلبہ بر دشمن	"	برائے حفاظت از شرک و شک
"	برائے حصول خیر و دفع گرسنگی	"	برائے کثرت تنکار مچلی
"	برائے دفع جن و مومذی جانور	"	برائے دفع درد
۱۰۹	برائے آسانی کار	۱۰۵	کافروں کے لئے
"	برائے حفاظت از احکام	"	برائے دفع سحر و نظر بد و غیرہ
"	برائے نیند	۱۰۶	برائے دفع درد سر
"	برائے حفاظت از شیاطین	"	برائے دفع بخار
"	برائے فتح بر دشمن	"	برائے دفع درد
"	برائے حفاظت جانور	"	برائے واپسی بخیریت از سفر
۱۱۰	برائے غلبہ بر دشمن	۱۰۷	برائے رہائی از قید
"	برائے دفع نظر بد	"	برائے عدم غلبہ پیاس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۶	برائے امساک	۱۱۰	برائے حفاظت از شر موزی
۱۱۷	برائے دفع استرخاء و تناسل	"	برائے حفاظت از جانور موزی
"	برائے دفع آسیب	"	" " " "
۱۱۸	برائے زخم و ذہل	"	برائے دفع شدائد
"	برائے دفع داد	۱۱۱	برائے حفاظت از خوف
"	برائے عرق النساء	"	مخالفین سے چھپنے کے لئے
۱۱۹	برائے حفظ و غیرہ	۱۱۲	برائے واپسی گم شدہ و گریختہ
۱۲۰	برائے نسیان	"	برائے شناخت چور
"	برائے امساک باران	"	برائے واپسی مال مسروقہ
"	برائے دفع مڈیاں	"	برائے عادت قرار
۱۲۱	برائے دفع پرندگان	"	برائے حفاظت مال
"	برائے دفع موش	"	برائے درد سر
۱۲۲	برائے دفع جانورال موزی	۱۱۳	برائے درد شقیقہ
"	برائے دفع سحر	"	برائے دفع وجع قلب
۱۲۳	برائے دفع درد و زہر نیش	"	برائے دفع نکیر
"	برائے حفاظت مال و متاع از ظالمات	"	برائے دفع درد ڈاڑھ
۱۲۴	برائے سیرابی درخت	۱۱۴	برائے آشوب چشم
"	برائے بار آوری و سرسبزئی درخت	۱۱۵	برائے دفع نکیر
"	برائے قفسائے حاجات	"	برائے وسوسہ فیش
۱۲۵	خواص حروف متجی	"	برائے قرار حمل
۱۲۶	برائے دفع دسادس	"	برائے حفاظت استقاط حمل
"	برائے دفع خوف	۱۱۶	برائے نیک فرزند
۱۲۸	برائے دفع جن	"	برائے قدرت جماع

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۳	برائے درستی ذہن و زبان	۱۲۹	برائے دفع جزا ام و برص
۱۳۴	برائے اذراہ خون	"	برائے دفع خارش
"	برائے گریہ طفل و زبان بندی دشمن	"	برائے دفع داد
"	برائے کشائش رزق ظاہری و باطنی	"	برائے مفلوج
۱۳۵	برائے گزیدن سگ دیوانہ	۱۳۰	برائے دفع گنجاپن
"	برائے چیچک	"	برائے عمر البول و پتھری
"	برائے آسیب زدہ	"	برائے دفع نکسیر
۱۳۶	برائے دفع جن	"	برائے جریان پیشاب
"	برائے عقیقہ	۱۳۱	برائے درد حلق
"	برائے اسقاط حنین	"	برائے قے
"	برائے درد زہ	"	برائے دفع سحر
۱۳۷	برائے فرزند نریتہ	"	برائے شکست کفار
"	برائے برہہ گریختہ	"	برائے توفیق توبہ
۱۳۸	کمال یقین، آسانی مطلوب وغیرہ	"	برائے قضائے حاجات
۱۳۹	برائے دفع نسیان و غفلت وغیرہ	۱۳۲	برائے حافظہ و انبساط نفس
"	برائے رقت قلب و محبت	"	برائے اصلاح قلب و نفس
"	برائے برکت درخت و پھل	"	برائے دفع شک و شبہ و ردین
"	برائے صفائی قلب و غناء	"	برائے دفع شراب خوردی و سود خوردی
"	برائے امن از آفات و توفیق	"	برائے دفع وسوسہ
۱۴۰	برائے شفا بیمار	۱۳۳	برائے حفاظت مال
"	برائے امن و امان	"	برائے نجات عشق و غم
"	برائے علو ہمت	"	برائے ترک بھڑٹ
"	برائے عزت و غناء	"	برائے شوق نماز و علم و عمل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۳	برائے ازالہ بخار	۱۴۰	برائے حصول برکت و اولاد سعید
"	برائے ضیق النفس	"	برائے حفاظت از آفات
"	برائے جوانی طفل، سلامتی مسافر وغیرہ	"	برائے صنائع عجیبہ و قرار حل
۱۴۴	برائے ترقی علم و معرفت و الفت زوہین	۱۴۱	برائے مغفرت و دفع تنگی رزق
"	برائے حفاظت از خوف	"	برائے زوال محبت دنیا و غلبہ بر دشمن
"	برائے حصول قوت و دفع وحشت	"	برائے حصول غنا و جاہ و قبول
"	برائے سہولت حساب و امن وغیرہ	"	برائے وسعت رزق
"	برائے قدر و منزلت	"	برائے آسانی امور و نورانیت قلبیہ
"	برائے اکرام	"	برائے ترقی علم و محافظہ
"	برائے حفاظت مال و عیال	۱۴۵	برائے دفع جوع و وسعت رزق
۱۴۵	برائے مقبولیت	"	برائے وسعت رزق
"	برائے غناء ظاہری و باطنی	"	برائے قضائے حاجت
"	برائے دفع مصائب	"	برائے امن از ظالم
"	برائے محبت	"	برائے ہمیت و دبیرہ
"	برائے دفع برص	"	برائے حفظ از حسد و حصول حق
"	برائے علم و حکمت	"	برائے اجابت دعا
"	برائے اطاعت اولاد	"	برائے صفائی بصیرت و توفیق نیکی
"	برائے کفایت مہمات	"	برائے انکشاف اسرار
"	برائے قضائے حاجت	"	برائے تسخیر قلوب
۱۴۶	برائے ہمت و قوت و غلبہ بر دشمن	"	برائے وسعت رزق و لطف
"	برائے رجوع از فجور	۱۴۳	برائے انکشاف حالت و خلاصی
"	برائے محبت و آسانی مشکل	"	برائے راحت و برکت و حفاظت کشتی
"	برائے حصول اخلاق حمیدہ	"	برائے عزت و شفا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۸	برائے عفو ذنوب و حصول رضا	۱۴۶	برائے تسخیر
۱۴۹	غصہ فرو کرنے کی تدبیر	"	برائے حفاظتِ حمل
"	برائے حصول مال	"	بھولی بات یاد کرنے کے لئے
"	برائے عزت و بزرگی	"	برائے امن از فراق و قید
"	برائے دوسوہ	"	برائے زوالِ اسراف و معاصی
"	برائے اجتماع با حباب و حصول {	۱۴۷	برائے نجات از امراض
"	مراد و غیرہ	"	برائے دفع نومِ آمادگی بر طاعت
"	برائے دفع مرض و بلا	"	برائے تقویتِ قلب
"	برائے غنا و محبت زوجہ	"	برائے نورِ قلب و قطعِ تعلقِ خلق
"	برائے حصول مراد	"	برائے حصول آثارِ صدق و دفعِ بھوک
۱۵۰	برائے امن از ضرر	"	برائے قوتِ غلبہ بر دشمن
"	برائے حصول نفع	"	برائے آسانیِ تدبیر
"	برائے نورانیتِ قلب	"	برائے قوت و نجات از معرکہ
"	برائے فہم صحیح	۱۴۸	برائے توفیقِ توبہ
"	برائے حاجتِ روائی و {	"	مسافر کا ساتھیوں سے ملنا
"	دفعِ غم	"	برائے خروجِ ماسوا اللہ از قلب
"	برائے دفعِ ضرر و غم	"	برائے نور و لایت
"	برائے دفعِ حیرت	"	برائے حصولِ انس
"	برائے قبولِ اعمال	"	برائے امن از عدد و برق
"	برائے حفاظت از تکالیف	"	برائے رفعت و درستی
۱۵۱	مسائل ضروریہ	"	برائے نشو و نما و تربیتِ بختی
۱۵۲	بسم اللہ اور درود و شریف کے خواص	"	برائے توفیقِ توبہ و خلاصی از مظالم
۱۵۹	تمت بالخیر	"	برائے انتقام از ظالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعمالِ شہرانی حصہ اول

پھل کی شیرینی کے لئے دعا | فَذَبْجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (بقرہ: ۱۰۱) خاصیت

یہ آیت پڑھ کر غریب زدہ یا اور کوئی چیز تراشے تو انشاء اللہ تعالیٰ شیریں لذیذ معلوم ہوگی۔

حاکم کو مہربان کرنے کے لئے | فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بقرہ: ۱۳۷)

خاصیت، جس سے حاکم ناراض و خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے یا لکھ کر بازو پر باندھ لیوے انشاء اللہ تعالیٰ حاکم مہربان ہو جائے گا۔

گم شدہ چیز کی تلاش کے لئے | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ: ۱۵۸) خاصیت

اگر یہ آیت پڑھ کر گم ہوئی چیز تلاش کی جاوے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور مل جاوے ورنہ غیب سے کوئی چیز اس سے عمدہ ملے گی۔

شوہر کو مہربان کرنے کے لئے | أَدْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَكَوَيَّرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ

الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (بقرہ: ۱۶۵) جس کا شوہر

ناراض ہو اس آیت کو شیرینی پر پڑھ کر کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔

مگر واضح رہے کہ ناجائز محل میں ہرگز اس کا اثر نہ ہوگا۔

حاکم کی خفگی دور کرنے کے لئے | أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (بقرہ: ۱۶۱) خاصیت، جس سے حاکم

سخت خفا و ناراض ہو ان آیتوں کو تین بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے اس کے ساتھ جائے انشاء اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا۔

شیطان کو دور کرنے کی دعا | اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (بقرہ: ۲۵۵) خاصیت: آخر تک آیت الکرسی کو جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان نہ آئے گا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا۔

چورا اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لئے | اَمَّا الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ الْيَدُ مِنْ رَبِّهِ تَاعَلٰى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (بقرہ: ۲۵۵) خاصیت: جو شخص یہ آیتیں شب کو پڑھ کر سو رہے تو انشاء اللہ تعالیٰ چورا اور ہر شے سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ (۱) اگر در روزہ سے تکلیف ہو تو غور مولانا امام مالک پر ہاتھ رکھے فوراً ولادت ہو جائے گی۔
فائدہ (۲) دعائے رویت ہلال: اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا يَٰ اَلَا مِيْنُ وَ اَلَا يَمِيْنُ وَ السَّلَامَةِ وَ السَّلَامَةِ رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنِيَ شَخْصٌ كُوْبَلَايْسٍ مِّتْلَا پَاوے تو یہ دعا پڑھے الحمد للّٰہ الذی عافنی مما ابتلاک به و فضلتی علی کثیر من خلقی تفضیلاً۔

اسمِ اعظم | اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (آل عمران: ۱) خاصیت: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت میں اسمِ اعظم ہے۔

خاتمہ بالخیر کے لئے | رَبَّنَا لَا تُذِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ اَنْدُكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران: ۸) خاصیت: جو کوئی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرے وہ دنیا سے انشاء اللہ با ایمان جائے گا۔

اولے قرص کے لئے | قُلْ اَللّٰهُمَّ مِلِّکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ

اَللّٰهُ مِمَّنْ تَسْأَلُوْهُ تَعٰوْذًا مِّنْ تَسْأَلُوْهُ وَتَذٰلُ مِّنْ تَسْأَلُوْهُ بِبَدَلٍ الْغِيُوْطِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (آل عمران: ۲۶) خاصیت، ادائے قرض کے لئے سات بار صبح شام پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ قرض ادا ہو جائے گا۔

اولاد کے لئے دعاء | اَرَبْتَ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاِ (آل عمران: ۳۸) خاصیت، جس کو اولاد سے مایوسی ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے، خداوند کریم اس کی برکت سے فرزند صالح عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اطاعت جانور کے لئے | اَفْعِيْزِيْنِ اللّٰهُ يَبْعُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (آل عمران: ۸۳) خاصیت، اگر سواری کا کوئی جانور گھوڑا اونٹ سواری کے وقت شوخی و شرارت کرے اور چڑھتے نہ دے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے انشاء اللہ تعالیٰ سیدھا ہو جائے گا۔

فراخی رزق کے لئے | ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدًا بَعْدَ النِّعَمِ اَمْنَةً تٰمًا وَّاللّٰهُ عَلَيْهِ يَدَاتُ الصُّدُوْرِ (آل عمران: ۱۵۳) خاصیت، کٹائش رزق کے لئے ان آیتوں کو مہینے کے پہلے جمعہ سے چالیس جمعہ تک بعد مغرب کے گیارہ مرتبہ پڑھے۔

دیگر :- وَ لَقَدْ مَلَكْنَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعٰلِشٍ قَلِيْلًا مَا تَشْكُرُوْنَ (اعراف: ۱۰) خاصیت، ہر جمعہ کے بعد کاغذ پر لکھ کر کوئیں میں ڈالنا جاوے امید قوی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل سے غنی و توں کر ہو جائے گا۔


مصیبت دور کرنے کے لئے | حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (آل عمران: ۱۷۲) خاصیت، جو شخص کسی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اس آیت کو پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت جاتی رہے گی۔

قبولیت دعا کے لئے | اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تَا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ (آل عمران ۱۹۰ تا ۲۰۰) خاصیت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے اس سے برطھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اس کو اس وقت برطھ کر جو دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔

ہر بیماری سے شفا | فَكُلُوْهُ هٰذَا قَمْرًا ذِيْ نَسَاءٍ (۳۳) خاصیت، اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب دوا استنباط فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی زوجہ کو دین مہر میں سے کچھ زر نقد دے اور وہ عورت اس زر نقد کو لے کر پھر اپنے شوہر کو بخش دے اس زر نقد سے شہد خرید کیا جائے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر جس مریض کو پلایا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور شفا پاوے گا محرب و آزمودہ ہے۔

ظالموں سے نجات کے لئے | اَرْبَنَّا اٰخِرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا دَابَعْلُ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّاۗۤ اَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (نساء: ۷۵) خاصیت، اگر کسی ظالم و بدکار کے شہر یا موضع میں گرفتار ہو اور وہاں سے نجات مشکل ہو تو اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرے اور اللہ سے اپنی رہائی کے لئے دعا مانگے انشاء اللہ ضرور رہا ہو جائے گا۔

محبت کے لئے | يُجِبُّهُمْ وَيُجِزُّهُمْ اَذَلَّتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (مائتہ: ۵۴) خاصیت، اس آیت کو شیرینی پر دم کر کے حس کو کھلا دے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہو جائے گی۔

عداوت و تفریق کے لئے | اَوَلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاۗةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (مائتہ: ۶۳) خاصیت، اگر دو آدمیوں میں تفریق و عداوت ڈالنا چاہے تو اس آیت کو بھونچ پتر پر لکھ کر اس کے نیچے نقش لکھے  اور اس نقش کے نیچے یہ عبارت لکھے کہ

درمیان فلاں فلاں کے تفریق واقع ہووے فلاں کی جگہ دونوں کا نام لکھے اور تعویذ بنا کر درمیان پرانی دو قبروں کے دفن کر دیوے مگر ناحق کے لئے نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔
سورہ انعام:۔ خاصیت، جس مہم اور غرض کے لئے چاہے اس سورت کو پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔

قبولیت دعا کے لئے | وَإِذَا جَاءَ ثَمُّهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اللہ! آگے جیٹ بیجَلْ رِسَالَتَهُ (انعام: ۱۲۳) خاصیت، ان دونوں آیتوں میں لفظ اللہ کا دو جگہ متصل واقع ہے جو شخص ان دونوں لفظ اللہ کے درمیان دعائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ سُرور پورما ہوگی۔

گناہوں سے معافی کے لئے | رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف: ۲۲) خاصیت، جو شخص اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ کر مغفرت کی دعائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف ہوں کیونکہ یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے۔

بخار سے شفا کے لئے | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَكَذَٰلِكَ يُبْصِرُونَ (اعراف: ۲۰۱) خاصیت، جس شخص کو گرمی سے بخارا آتا ہو اس آیت کو پانی پر دم کر کے یا نشتری پر لکھ کر پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

ہول دل کے لئے | لِيُزَيِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيَتَنَبَّأَ بِمَا أَفْقَادَ (انفال: ۱۱) خاصیت، یہ آیت ہول دل کے لئے نہایت مجرب ہے اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر گٹھے میں اس طرح لٹکا دے کہ وہ تعویذ عین قلب پر رہے بلکہ اس کو کپڑے یا دھاگے سے باندھ دے تاکہ قلب سے ہٹنے نہ پاوے۔

محبت کے لئے | هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ - وَالْأَفْيَيْنَ قَالُوا بِهِمْ
لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَيْتَ بَيْنَ كُلِّهِمْ - وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال: ۲۳) خاصیت، محبت کے لئے شیرینی پر دم کر کے کھلاؤ دلی
محبت انشاء اللہ ہو جاوے۔

تجارت میں نفع و ترقی | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَتُعْتَدَ لَكُمُ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَدْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (توبة: ۱۱۱) خاصیت، ان آیتوں کو
مال تجارت میں رکھے تو موجب بہتری اور ترقی کا ہو گا۔

رسول اللہ کی شفاعت کے لئے | لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْهُ هُدًى وَنُورٌ كَرِيمٌ
سُورَةُ التَّوْبَةِ (۱۳۹) خاصیت، جو کوئی ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا کرے
تو انشاء اللہ تعالیٰ روزِ حشر میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت
فرمادیں گے اور جس مصیبت اور مہم کے لئے چاہے پڑھے انشاء اللہ مصیبت آسان
ہو جائے گی۔

بد خوابی سے حفاظت | لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (یونس: ۶۴) خاصیت، جس شخص کو بد خوابی
ہو اور پریشان خواب دیکھتا ہو وہ اس کو گلے میں ڈالے یا سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو
انشاء اللہ تعالیٰ خواب بد سے محفوظ رہے گا۔

سحر سے حفاظت | فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَلَى الْفٰسِقِينَ - وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ -

(یونس: ۳۵) خاصیت، سحر کے لئے بہت مجرب ہے جس پر کسی نے سحر کیا ہو ان آیتوں کو لکھ کر گلے میں ڈالے یا نشتری پر لکھ کر پلاوے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔

سفر میں حفاظت کے لئے | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

(ہود: ۴۱) خاصیت، جب کشتی یا کسی دوسری سواری پر سوار ہونے لگے تو اس آیت

کو پڑھ لے انشاء اللہ تعالیٰ راہ کی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور جس شخص کو سردی سے بھار

آتا ہو اس کو پیری کی لکڑی پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

اطاعت غلام کے لئے | إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ

أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ہود: ۵۶) خاصیت، اگر کوئی لٹدی

یا غلام سرکش ہو تو بال پیشانی کے پکڑ کر تین مرتبہ اس کو پڑھے اور اس پر دم کرے انشاء اللہ

تعالیٰ تابعدار اور مسخر ہو جائے گا۔

استقامت قلب کے لئے | فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَمِيعٌ وَمَن تَابَ تَابَ مَعَكَ (ہود: ۱۱۲)

خاصیت، استقامت قلب کے لئے گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے۔

برائے حب | يُوسُفُ أَغْرَضَ عَنْ هَذَا إِذْ اسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ

الْخٰطِئِينَ - وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - (یوسف: ۲۹) خاصیت، یہ آیات حب میں سے ہیں جس کی ترکیب

اوپر دو جگہ گزر چکی۔

خوف دُور کرنے کے لئے | قَالَ اللَّهُ حَبِيبٌ حَافِظًا (آخرہ یوسف: ۶۴) خاصیت،

جس کو دشمن سے خوف ہو یا کسی اور طرح کی بلا و مصیبت کا خوف ہو وہ اس کو کثرت سے پڑھا

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے جہت تک اس کا دل نور سے منور ہوگا اور جو کوئی شروع کی دس آیتیں روزِ مرتہ پڑھ لے وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝۱ (صریحہ: ۹۶)

خاصیت: آیاتِ حبیب سے ہے اس کی ترکیب اوپر گزر چکی۔

علم میں ترقی رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاخْلُ عَقْدَةً بَيْنَ لِسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ (طہ: ۲۵ تا ۲۸) خاصیت: ترقی علم اور کثادگی ذہن کے لئے ہر روز نماز صبح کے بعد اکیس بار پڑھا کرے مجرب ہے۔

ہمزاد و شیطان کے دفن کے لئے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰى (طہ: ۱۵) خاصیت: مشائخ سے منقول ہے کہ اگر میت پر دفن کے وقت تین بار اس آیت کو پڑھ کر مٹی دیوے تو اس کا ہمزاد شیطان بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائیگا۔
علم کی ترقی کے لئے رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ: ۱۱۳) خاصیت: ترقی علم کے لئے ہر نماز کے بعد جس قدر ہو سکے پڑھا کرے۔

دفع بخار کے لئے يَا نَادِيْكَوْنِيْ بُرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (انبیاء: ۶۹) خاصیت: جس کو گرمی سے بخار آتا ہو اس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے، انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔

دفع بلا اِنِّیْ مَسْتَعِيْزٌ اِلَيْكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ (انبیاء: ۸۳) خاصیت: بلا و مصیبت کے وقت پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ نجات ہوگی۔

دفع مصیبت لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ (انبیاء: ۸۴) خاصیت: اس میں ہم اعظم معنی ہے جس مصیبت و بلا میں پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ عظیم اٹھائے گا۔

برائے اولاد | رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (انبیاء: ۸۹) **خاصیت**

جس کو اولاد سے مایوسی ہو نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ یہ دعا ذکر یا علیہ السلام کی ہے۔

حمل کی حفاظت کے لئے | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اتَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ (حج: ۱۱) **خاصیت**، حفظ حمل کے لئے مفید ہے اس کی ترکیب اور گزر چکی ہے۔

شیطان سے حفاظت | رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاعُوْذُ

بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْتَفُوْنَ (مؤمن: ۹۷) **خاصیت**، جس کے دل میں وسوسے شیطانی

بہت پیدا ہوتے ہوں وہ اس کو بکثرت پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ ان وسوسوں

سے محفوظ رہے گا۔

کسی شہر میں داخل ہوتے وقت | رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(مؤمن: ۲۹) **خاصیت**، جب کسی شہر میں داخل ہو تو اس آیت کو پڑھے انشاء اللہ

تعالیٰ وہاں بخیر و خوبی بسر ہوگی۔

دفع آسیب کے لئے | اَفْحَسِبْتُمْ اَنْهٖ اَخْلَقَكُمْ عَبَثًا وَّ اَنْكُمْ اِلٰهًا لَا تُرْجَعُوْنَ

فَتَعٰلٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يُّدْعُ مَعَ اللّٰهِ

اِلٰهًا اَحَدًا لَا بُرْهَانَ لِّعَالِيْهِمْ فَاَتَمَّ حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ (مؤمن: ۱۵ تا ۱۱) **خاصیت**،

جس شخص پر آسیب ہو ان آیتوں کو تین بار پڑھا کر منہ میں جھینٹا دیوے یا کان میں دم کر دیوے

انشاء اللہ تعالیٰ فوراً دور ہو جائے گا۔

جانور کے زہر سے حفاظت | وَاِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشَاتِ الْجَيَّارِيْنَ (شعر: ۱۳۰)

خاصیت، اگر کسی کو زہریلا جانور کاٹے تو جہاں پر کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا،

ایک سانس میں سات بار پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جاوے گی۔
 دین داری کے لئے | رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذِرَاءَ طَيِّبَاتٍ فَهِيَ آيَاتٌ | اِجْعَلْنَا
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (مائدہ: ۴۰) خاصیت، جو اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا
 کرے تو اس کی اولاد اور بیوی دین دار ہو جائیں گے۔

چینیوٹیاں بھگانے کے لئے | يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُخْطِئَكُمْ سُبُحَاتُ
 وَجُودُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ (نمل: ۱۸) خاصیت، اگر چینیوٹیوں کی کثرت ہو تو اس آیت
 کو لکھ کر ان کے سوراخ کے پاس رکھ دے انشاء اللہ تعالیٰ سب چینیوٹیاں اپنے سوراخ
 میں داخل ہو جائیں گی۔

بھاگے ہوئے کی واپسی | (۱) قَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمَمٍ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
 أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْحَبُونَ (قصص: ۱۳) خاصیت، اگر کوئی
 شخص بھاگ گیا ہو اس آیت کو لکھ کر چرخ میں باندھ کر ساٹھ مرتبہ ہر روز چالیس دن تک
 الٹا گھما دیں انشاء اللہ تعالیٰ برکت اس عمل کے وہ شخص جلد واپس آئے گا۔

ایضاً: (۲) اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَىٰ مَعَادٍ (قصص: ۸۵)
 خاصیت، دو رکعت نفل پڑھ کر اس آیت کریمہ کو ایک سو اسی مرتبہ چالیس روز تک
 پڑھے، برکت اس کے جو شخص بھاگ گیا ہو واپس آوے۔

ایضاً: (۳) يٰبَنِي اٰدَمَ اَنْ تَقُلُوْا لِهٰذَا اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (لقمن: ۱۷) خاصیت،
 برکت اس دعا کے جو شخص بھاگ گیا ہو واپس آئے گا موافق ترکیب ادپر کے عمل
 میں لادیں۔

قبولیت نماز | اَلَيْدُ يَصْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعُ (رُفَاط: ۱۰۰)
 خاصیت، مشائخ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد کلمہ توحید تین بار
 پڑھ لے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہوگی۔

وقع طحال | إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا سَ حَلِيمًا عَفُورًا
 (رُفَاط: ۴۱) خاصیت، اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر طحال پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ
 طحال جاتا رہے گا۔

ناف کی تکلیف سے حفاظت | ذَلِكْ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ (البقرہ: ۱۷۸)
 خاصیت، جس کسی کی ناف ٹل گئی ہو اس آئیہ کریمہ کو لکھ کر ناف پر باندھے انشاء اللہ
 تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔

سورہ یس کے خواص | پوری سورہ یس۔ خاصیت، اس سورت کی حدیث میں
 بہت کچھ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو گویا اس نے چار
 قرآن شریف ختم کئے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خود اس قرآن کے ختم کرنے کی ضرورت
 نہیں، کیونکہ قرآن جس میں یہ سورت اور دوسری بھی فضیلت کی بہت سی سورتیں ہیں جب ایک
 سورت کے ختم کا یہ ثواب ہوگا تو پورے قرآن کے ختم کا کیا کچھ فائدہ نہ ہوگا علاوہ ازیں
 قرآن پاک کی تلاوت سے تقرب الی اللہ جو ایک بے بہا شئی ہے حاصل ہوتا ہے، اور
 اس سورت کو جو شخص ہر صبح ایک بار پڑھ لے تو تمام دن اس کا خیر و فلاح سے گزرے۔

محبت کے لئے | اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَادَّتْ بِالْحُبِّ
 رُدُّهَا عَلٰی قَطِیفٍ مَّسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ (ص: ۳۳۳) خاصیت، آیات حُب
 میں سے ہے ترکیب اس کی اوپر گر رہی۔

ظالم کو شہر سے نکالنے کے لئے | وَلَقَدْ قَتَلْنَا سُلَيْمَانَ وَآلَقَيْنَا عَلَوَ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا
 ثُمَّ أَنَابَ (ص: ۳۴) خاصیت، اگر کسی بشری ظالم کو شہر سے نکالنا ہو تو ہر روز سات
 سرخ گھونچے کو کوئیں میں ڈالتا جائے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ شخص اس شہر سے جلد چلا جائے
 گا اس عمل میں ترک حیوانات لازم ہے مگر اس کو ناجائز جگہ پر عمل نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائیگا۔
 ہر مرض کے لئے | وَيَتَنَفَّسُ مِنْ دَرَكٍ مُؤَمِّنِينَ (توبہ: ۴۱) وَيَتَنَفَّسُ لِمَا فِي
 الصُّدُورِ (یونس: ۵۵) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيكَ يَشْفَاءُ
 لِّلنَّاسِ (نحل: ۶۹) وَمُنْزَلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (نبأ: ۱۲)
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (شعراء: ۸۰) قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى يَ شِفَاءٌ
 رَحْمَةً سَجْد: ۳۴) خاصیت، ان آیات شفا کو جس مرض میں چاہے طشتری پر لکھ کر
 مریض کو پلاوے یا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دے انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہوگی اگرچہ
 کیسا ہی سخت مرض ہو۔

حاکم مہربان ہو | کھلیعصّ (مہمید: ۱۱) حَمْدٌ عَسَقَ (شوری: ۱) خاصیت، اگر حاکم
 خفا ہو تو اول تین مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے بعد ازاں کھلیعصّ کے ہر حرف کو پڑھتا جاوے
 اور واسطے ہاتھ کی ایک انگلی کو ہر حرف پر بند کرتا جاوے اسی طرح حَمْدٌ عَسَقَ
 کے ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور بائیں ہاتھ کی انگلی کو بند کرتا جاوے اس کے بعد
 کھلیعصّ کے ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور واسطے ہاتھ کی ہر انگلی کو کھولتا جاوے
 اور اسی طرح حَمْدٌ عَسَقَ کے ہر حرف کو پڑھتا جاوے اور بائیں ہاتھ کی ہر انگلی کھولتا
 جاوے اس ترکیب کے بعد نظر بچا کر حاکم کی طرف دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائیگا۔
 رزق کی زیادتی | اللّٰهُ لَطِيفٌ بَعِيْدٌ يُّدْرِكُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْلَمُ الْغُيُوبَ (الْعَزِيزُ

(شوری: ۱۹) **خاصیت**، زیادتی رزق کے لئے بعد نماز کے کثرت سے پڑھا کرے۔
آفتوں سے حفاظت | سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (زخرفہ: ۱۳)
 خاصیت، گھوڑے یا دوسری سواری پر سوار ہونے کے وقت اس آیت کو پڑھ لیا
 کرے انشاء اللہ تعالیٰ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

دوزخ سے نجات | حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (مومن: ۱)
 حَمْدٌ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (حم سجدہ: ۱) حَمْدٌ عَسَقَ (شوری: ۱۱) حَمْدٌ
 وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (زخرفہ: ۱) حَمْدٌ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ
 إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (دخان: ۳) حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 (جاثیہ: ۱) حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (احقاف: ۱) **خاصیت**،
 جو شخص ان ساتوں حمد کو پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے ساتوں روازے بند ہو جائیں گے۔
اولاد فرما کر ہمارے | وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ آتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 (احقاف: ۱۵) **خاصیت**، جس کی اولاد نافرمان ہو وہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا
 کرے انشاء اللہ تعالیٰ صالح ہو جائے گی، پڑھنے کے وقت ذُرِّيَّتِي کے لفظ پر اپنی اولاد
 کا خیال رکھے۔

آنکھوں کی روشنی کے لئے | فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
 (ق: ۲۲) **خاصیت**، اس آیت کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے
 آنکھوں پر لگائے انشاء اللہ تعالیٰ بصارت میں کمی نہ ہوگی بلکہ جس قدر نقصان ہو گیا
 ہوگا وہ جاتا رہے گا۔

پیدائش اولاد کے لئے | وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَ الْأَرْضَ قَدَشْنَاهَا

فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (زاسیاء: ۲۷) خاصیت، جس کو اولاد سے مایوسی ہو وہ دو اندرے جوش کر کے اور پوست دور کرے ایک پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا يَافُودًا إِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ لکھے اور دوسرے پر وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ لکھے پہلا بیضہ مرد اور دوسرا بیضہ عورت کھاوے اسی طرح چالیس روز تک یہ ترکیب کرے اور اس درمیان میں قربت بھی کرتا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ استقرار حاصل ہوگا۔

بھوک کے لئے | پوری سورہ واقعہ (پ: ۱) خاصیت، حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو رات کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا۔

دردِ سر کا علاج | لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُؤْذُونَ (واقعہ: ۱۹) خاصیت جس کو دردِ سر ہو اس پر تین دفعہ پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ جاتا رہے گا۔

قیامت کے دن عیشیانی کا چمکنا | إِنَّهَا هِيَ الْيَوْمَ الرَّحِيمَةِ (لہو: ۲۸) خاصیت، جو کوئی اس آیت کو بعد نماز گیارہ بار انگلی پر دم کر کے عیشیانی پر مل دے تو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا منہ چمکے گا۔

اسمِ اعظم | هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تَا هَلِكُمْ دَحْشَتُهُمْ (خاصیت، اسمِ اعظم اس میں مخفی ہے جو کوئی صبح کے وقت سات مرتبہ پڑھے تو شام تک اس کے واسطے فرشتے دعائے مغفرت کریں اور اگر اس دن میں مرے تو شہید کا درجہ پائے گا اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے واسطے فرشتے دعائے مغفرت کریں اور جو اس شب کو مرے تو درجہ شہادت پائے۔

کشاوگی رزق کے لئے | هَٰذَا يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا (طلاق: ۳) خاصیت، فراخی رزق کے لئے اور جس مہم

میں چاہے اس کو پرٹھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور ہو جائے گی اور ہم آسان ہوگی۔

قبر کے عذاب سے نجات | پوری سورہ ملک (۱۱۴) خاصیت، جو شخص اس سورت کو ہمیشہ پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔

سب حاجتیں پوری ہوں | ن والقلم (۱۱۲) اور جتنے مفرد مقطعات حروف قرآن شریف ہیں ان سب کو انگشتی پر کندہ کر اگر جو شخص اپنے پاس رکھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی سب حاجتیں پوری ہوں گی اور خیر و خوبی میں بسر ہوگی۔

نظر بد کا مگر عمل | اِنَّ يَكَاذُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَيْسَ يَقُوْنَتْ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الَّذِيْ كَرُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَمَجْنُوْنُوْنَ - وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (القلم ۱۱۵) خاصیت: حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نظر بد کے لئے مفید ہے۔

ہر قسم کی حاجتوں کے لئے | فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْهُ اَدْبَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ عَقَّارًا يُّرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدَادًا وَّيُسِرُّكُمْ بِاَمْوَالِ دٰبِّيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا (نوح: ۱۱۶) خاصیت: چند شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کسی نے پانی نہ برسنے کی شکایت کی اور کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور کسی نے دوسری حاجتوں کے لئے کہا آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کہ استغفار کرو، ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب کو استغفار ہی کے لئے فرمایا آپ نے جواب میں انھیں آیتوں کو پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی آیت کو ارشاد فرمایا ہے اور اگر پوری سورہ نوح سوتے وقت پڑھ لی جاوے تو احتمال سے محفوظ رہے گا۔

آسیب ڈور کرنے کے لئے | پوری سورہ جن (پ) خاصیت، جس پر آسیب آتا ہو اس پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دے یا لکھ کر بازو پر باندھ دے تو انشاء اللہ جاتا رہیگا۔
کشائش رزق کے لئے | پوری سورہ مدقل (پ) خاصیت، کشائش رزق کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کی ترکیب یہ ہے ایک چلہ تک ہر روز وقت معین پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پھر گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا مَعْنٰی پڑھے بعد گیارہ مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھے اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لے جو اس عمل کو کرے گا۔
 اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی طرح طرح سے امداد فرمائے گا۔

عمل الٹنے سے حفاظت | پوری سورہ عبس و تولى (پ) خاصیت، جو شخص کسی عمل کے وقت اس سورت کو پڑھ لے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس عمل کی رحبت سے محفوظ رہے گا۔

ولادت میں سہولت کے لئے | اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاِذْ اَنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَاِنْشَقَّتْ (۸۷) خاصیت، ان آیتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لئے بائیں ران میں باندھ دے انشاء اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے ولادت ہوگی مگر بعد ولادت تعویذ کو فوراً کھول دینا چاہئے اور اسی عودت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دنیا مفید ولادت ہے۔

بصارت کی کمی کے لئے | پوری سورت انا انزلناہ (پ) خاصیت، جو شخص دمنو کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی بصارت میں کمی نہ ہوگی۔

نصف قرآن کا ثواب | پوری سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ (ذلہال، ۱) خاصیت، حدیث میں

میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو ایک بار پڑھ لے گا تو اس کو آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

مقبروں پر پڑھنے کی دعا | پوری سورت اَلْهُكُمُ اللّٰہُ تَزِدُّہٗ اِخصیت، مقابر میں جا کر اس سورت کو پڑھنا مستون ہے۔

رسول اللہ کا معمول | پوری قُلْ یٰۤاَیُّہَا الْکٰفِرُوْنَ دِہٖ اِخصیت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی سنت اور مغرب کی نماز کی سنت کی اول رکعت میں قُلْ یٰۤاَیُّہَا الْکٰفِرُوْنَ اور دوسری میں قُلْ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

تہائی قرآن کا ثواب | پوری سورۃ اخلاص دِہٖ اِخصیت، حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اس سورت کو ایک دفعہ پڑھا اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملے گا۔
بخار سے نجات | پوری سورۃ فاتحہ دِہٖ اِخصیت، پنبہ گرفتہ اول صلوٰۃ یا زودہ بار خواندہ سبع مثانی ہفت بار خواندہ دم کند و در اذن راست نہد بعدہ بر پنبہ و گچہ پنج بار خواندہ دم نمودہ و در اذن چپ نہد پس یا زودہ بار صلوٰۃ بخواند روز دویم بہاں وقت کہ پنبہ تھا وہ است یمین را بسیار و بسیار را یمین کند جمعی یعنی بخار دفع شود اللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

تعویذات مفید عام

ناظرین کتاب ہذا کی خدمت مبارک میں التماس ہے کہ بعض تعویذات و دعاؤں جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب امام مسجد کانپور کو جامع کمالات صوری و معنوی حضرت مولانا حاجی حافظ سید شاہ محمد عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ خلف اکبر قطب نماں حضرت شاہ غلام رسول صاحب رسول نما رضی اللہ عنہما سے و نیز بعض بزرگان دین سے ملے تھے جناب حافظ صاحب نے اس کے چھاپنے کی اجازت عام کر دی ہے تاکہ جمیع حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن یہ عرض ہے کہ کوئی صاحب اس کے ذریعہ سے دنیا کا کانا اختیار نہ کریں اور خلاف شرع کوئی کام عمل میں نہ لادیں بلکہ معاش و معاد بہت مجرب پاویں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

چیچک کے لئے | از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ تعویذ چیچک، اس کو لکھ کر تعویذ بتا کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے اور سات گندے کوڑی تعویذ لینے والا خیرات کر دے وہ یہ ہے:-



ہیضہ سے حفاظت | از مولانا علیہ الرحمۃ تعویذ برائے حفاظت ہیضہ اس تعویذ کو

لکھ کر بازو پر باندھ دے اور تعویذ باندھنے والے کی طرف سے پانچ دمڑی یا کوڑی خیرات کر دے تعویذ یہ ہے:-

اللہ بجزمت حضرت شیخ محمد صادق اکابر اولیاء ولد حضرت
شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہما
از شربلائے دبا نگہدار اللہ شانی اللہ کافی

بچوں کی حفاظت کے لئے | از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ تعویذ برائے اطفال اس
سے بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے اس تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچوں کے گلے میں
ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت میں رکھے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بکلمات اللہ اتامات کلمات
مشرقا خلق بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض ورب السماء
بسم اللہ الذی لا ینزع اسمہ شی فی الارض لاقی السماء وہو السميع العليم

ہر بیماری اور مصیبت سے حفاظت | از حضرت مولانا علیہ الرحمۃ واسطے بچنے ہر بلا
و مصیبت و ہر بیماری سے جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا یا کسی بلا میں گھرے ہوئے
کو دیکھے اور اس دعا کو پڑھے کیسی ہی مکر وہ و خراب بیماری و مرض ہو جیسے کوڑھ،
مرگی، دمہ، جنون، جذام وغیرہ یا کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے اس کا پڑھنے والا اس
مرض اور گناہ سے محفوظ رہے گا۔ حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بچا دے گا، دعا یہ
ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلاَکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ
خَلَقَ تَفْئِیْلاً۔

بخار و تپ لرزہ | از قاضی شاہ محمد ولی اللہ صاحب مرحوم تعویذ بخار و تپ لرزہ

برائے مسلماناں تین میل کے پتوں پر لکھ کر تین روز تک چٹا دے انشاء اللہ تعالیٰ مرض
شفایا دے، وہ یہ ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ

ایضاً:- برائے غیر مسلم یہ ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ

پتہ پر دونوں تعویذ لکھے جائیں گے
لڑکے کی ولادت میں سہولت | از ایک درویش با شرع برائے دروزہ اس نقش کو
لکھ کر عورت کے ج ح خ ط ط ع غ ق ی ک ل ہ د ا ہتے ہاتھ پر رکھ دے اور
عورت اس کو غور سے دیکھے جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ نقش یہ ہے:

انشاء ۵۵۵ سوک ل د

بھوڑے پھنسی سے شفا | واسطے دفع ہونے پھوڑے اور دنبل کے از قاضی شاہ
محمد ولی اللہ صاحب مرحوم اس کو سات مرتبہ پڑھ کر نپڈول مٹی پر دم کرے اور
تھوڑا عاب دہن اس مٹی پر ڈال دے پھر سوکھی مٹی پیس کر دنبل پر لگا دے اسی طرح
کئی روز لگا دے انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا ہوگی، وہ دعا یہ ہے:- بِسْمِ اللّٰهِ
تَرْبِیۃً اَدْنٰی بِرِیْقَتَیْ بَعْضِنَا وَیَشْفِیْ سَقِیْمَنَا بِاَذِنِ رَبِّنَا اَرْمَعْمُوْلَاتِ مُظْہِرِیْہِ
برائے آماں گلو | برائے آماں گلو بروز دو شنبہ یا روز جمعہ کو لکھ کر اس تعویذ کو
گلے میں باندھے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا ہوگی وہ یہ ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ

بواسیر سے شفا | دو شنبہ یا جمعہ کو لکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھے شفا پائے گا
انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہے:- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ

یا رحیم و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین۔

یا گل کتا کاٹے کا علاج | از معمولات منظر یہ جس کو پاگل کتا کاٹے اور اس کے دیوار

ہو جانے کا خوف ہو تو اس آیت کو روٹی کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ہر روز ایک کھانا

کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ کچھ خطرہ نہ ہوگا اور وہ آیت شریف یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِکَیْنَدٍ وَّ

کَیْنَدٍ اَوْ اَکَیْنَدٍ اَقْمِیْهِ اَلْکَافِرِیْنَ اَمْهِیْهِمْ دُوْیْدًا۔ (الطارق: ۵ تا ۱۱)

حاجت پوری ہو | امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جس شخص کو کچھ

حاجت ہو پس چاہئے کہ لکھے ایک رقعہ اس میں یہ عبارت ہو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْ الْعَبْدُ الذَّلِیْلُ اِلَى الرَّبِّ الْجَلِیْلِ ذَبَّ اَنِّیْ مَسَّتَنِیْ الْفَقْرُ وَاَنْتَ اَدْحَمُّ الرَّحِیْمِیْنَ

(انبیاء: ۸۳) پھر ڈال دے اس رقعہ کو پانی جاری میں اور کہے اللھم بحمد والہ الطیبین

الطاهرین وصحبہ الموصنین اقض حاجتی یا احرم الاحرامین اور اپنی حاجت

کا نام لے انشاء اللہ تعالیٰ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔

تیسرے روزہ بخار کا علاج | تپ لرزہ جو تیسرے روز آتا ہے نہایت مجرب ہے۔

ایک بزرگ مرید حضرت سید شاہ غلام رسول صاحب رسول نما دو ٹھیکرے کو رے برتن

کے لے کر اس پر لکھے ازمین بار اس دعا کو پڑھ کر دم کر دے، شاہ شفا کل بلا دفع پھر

بازو پر باندھ دے تین روز تک صبح کو داہنے بازو کی بائیں پر اور بائیں کی داہنے پر

بدل دیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ بخار فرار ہو جائے گا۔ نعم ید یہ ہے:-

بیت اللہ شافی
وہ

بیت اللہ شافی
وہ

اعمال شُرّانی حصہ دوم

ملقب بسا

خواص فرقانی

زیادتِ جاہ و منزلت | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خاصیت، شیخ ابو بکر سراج نے بعض صالحین سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کو ۶۲۵ بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا ہوگی اور کوئی شخص اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا تجربہ سے صحیح نکلا۔

برائے حاجت روائی | بسم اللہ کو بارہ ہزار دفعہ اسی طرح پڑھے کہ جب ایک ہزار ہو جاوے دو رکعت پڑھ کر اپنی حاجت کے لئے دعا کرے پھر پڑھنا شروع کرے ایک ہزار کے بعد پھر اسی طرح دو رکعت پڑھے غرض اسی طرح بارہ ہزار مرتبہ ختم کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی۔

مال و اولاد کی حفاظت | سورہ فاتحہ (پ شوع) خاصیت، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز جب امام سلام پھیرے اس وقت الحمد شریف اور قل ہو اللہ ربّ العزّ و ربّ الفلق (پ قل اعوذ برب الناس) (پ سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دین اور دنیا اور اہل و عیال اور اولاد کو ہر بلا سے جمعہ آئندہ تک محفوظ رکھیں۔

بخار کا علاج | حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے الحمد شریف چالیس بار پانی

پردہ کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹا دے انشاء اللہ تعالیٰ بخار رفع ہو جاوے۔
شیطان اور ظالم سے حفاظت | آیت الکرسی (فقہ: ۲۵۵) حدیث بخاری میں ہے
 کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے تمام شب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص
 کے لئے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔
ہر قسم کے ظلم اور چوری سے حفاظت | ابو جعفر نخاس نے حدیث نقل کی ہے آیت الکرسی
 اور سورہ اعراف کی تین آیتیں اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِیْنَ وَ اِلَیْہِ رُجُوعٌ
 اللّٰہِ قَدِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ تک (اعمال: ۳۶) اور سورہ صافات کے شروع سے
 ثَاقِبٌ تَک دُحْنٌ اَنَا اور سورہ رومن کی آیتیں سَتَقَرُّ عَیْ سَے فَلَا تَنْتَصِرَ اَیْ تک
 (رحمن: ۳۳) یہ سب آیتیں اگر کوئی شخص دن میں پڑھے تو تمام دن اور اگر رات میں پڑھے
 تو تمام رات شیطان سرکش اور جادوگر ضرر رساں اور عالم ظالم اور تمام چوروں اور
 غندموں سے محفوظ رہے گا۔

حروف مقطعات: جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں وہ یہ ہیں: اَللّٰہُ۔ اَلصّٰدِقُ۔
 اَلرّٰی۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔ اَلْمَدِّیُّ۔
 ق۔ ن۔ جن میں یہ حروف آئے ہیں۔ الف، ح، صاد، سین، کاف، عین،
 ط، قاف، ر، ہا، نون، میم، لام، یا۔ ان کا لقب اصطلاح میں حروف ثورانی
 ہے اور ہر ایک حرف کے ساتھ بعض اسماء الہیہ کو تعلق ہے مثلاً: الف کے ساتھ اللہ، احد

۱۔ پ بقرہ شروع ۲۔ پ اعراف شروع ۳۔ پ یونس شروع ۴۔ پ اعد شروع ۵۔ پ مریم شروع
 ۶۔ پ آل عمران شروع ۷۔ پ شعراء شروع ۸۔ پ یسین شروع ۹۔ پ ص شروع ۱۰۔ پ حم سجدہ آغاز
 ۱۱۔ پ شوریٰ شروع ۱۲۔ پ ق شروع ۱۳۔ پ اقلم شروع۔

اَدْل، اَخْرَجَ حَی - صَ صَمَد - سَ سَمِیْع، سَبْرَح، سَلَام - لَ لَکَرِیْم - عَ
 عَلِیْم، عَظِیْم، عَزِیْز - طَ طَلِیْب - قَ قِیَوم - رَ رَحْمَن، رَحِیْم - کَ کَھ - اَدِ
 نَ نَوَس، نَافِع - مَ مَالِکِ یَوْمَ الدِّیْن، مَالِکِ الْمَلِکِ، مَحِی وَمَمِیْت - لَ لَطِیْف -
 حَ حَیوۃ -

مال اور کھیت کی حفاظت | حروف نورانی کو اپنے مال و متاع یا کھیت یا گھر وغیرہ
 میں رکھے، ہر بلا سے محفوظ رہے۔

دشمن پر غلبہ | مقابلہ دشمن کے وقت اَلْمَصِّ - کَھلَعَصَّ - قَ وَالْقُدْرَانِ الْمَجِیْدِ
 نَ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ کثرت سے پڑھے تو دشمن پر غالب ہو۔

ہر بلا سے امن و حفاظت | بعض عارفین و جہلہ میں سوار ہونے کے وقت حروف نورانی
 کو پڑھ لیتے تھے وجہ دریافت کرنے پر فرماتے کہ جہاں کہیں ان حروف کو لکھا یا کہیں
 دریا و خشکی میں پڑھا وہ مکان اور پڑھنے والا ہر بلا سے محفوظ رہا۔

برکت رزق اور موزی | ایک اور عارف سے منقول ہے کہ ان کے پاس رکھنے سے
 جانوروں سے حفاظت تمام آفات سے حفاظت رہتی ہے اور رزق ملتا ہے اور

حوائج پورے ہوتے ہیں اور دشمن اور چور اور سانپ اور بھید اور درندہ اور خشرات سے
 محفوظ رہتا ہے اور سفر میں ان کے پڑھنے سے صحیح و سالم گھر واپس آتا ہے۔

مرگی کا علاج | ایک اور عارف کی باندی کو مرگی آتی تھی انھوں نے اس کے کان
 میں یہ پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَلْمَصِّ - طَسَمَ - کَھلَعَصَّ - یَسَّ

وَالْقُدْرَانِ الْحَکِیْمِ - حَمْدُ عَشَق - نَ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ - دُہ بالکل اچھی
 لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع
 شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع لے پ اعراف شروع

ہو گئی اور پھر مرگئی نہیں اٹھی۔

ڈاڑھ کی درد کی جھاڑ | بصرہ میں ایک شخص ڈاڑھ کا درد جھاڑتا تھا اور نخل کی وجہ سے کسی کو بتاتا نہ تھا جب مرنے لگا اس وقت قلم دوات منگا کر لکھ کر وہ عمل بتلایا وہ جھاڑ یہ ہے :- **الْمَصَّ (اعمال: ۱) طَسَمَ (شعراء: ۱) کھایَعَصَ (مرایم: ۱)**

حَمْدُ عَسَقٍ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (شوری: ۱) اُسْكُنْ بِكَهْلِيْعَصَ
ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكِيًّا - اُسْكُنْ بِالَّذِيْ اِنْ يَّشَاءُ يُسْكِنِ الرَّيْحُ
فَيُظِلُّنَ دَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهِ . اُسْكُنْ بِالَّذِيْ سَكَنَ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ -

بہت سی حاجات کے لئے عمل | **الْحَمْدُ** - ذَلِكْ اَلِكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ سَمِعْتُهُمْ
الْمُفْلِحُوْنَ تَمَّ (بقرة: ۱۵۵) **الْحَمْدُ** - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ سَمِعْتُهُمْ
الْفُرْقَاتِ تَمَّ (آل عمران: ۲) **الْمَصَّ** - كِتَابٌ اُنْزِلَ سَے لِّلْمُؤْمِنِيْنَ مَكِّيًّا
الْمَقْرٰتِلِكَ اَيْتُ الْكِتٰبِ سَمِعْتُهُمْ (روم: ۱) **كَهْلِيْعَصَ** سَمِعْتُهُمْ
تَمَّ (مرايم: ۲۱۱) طَسَمَ سَمِعْتُهُمْ لِيَتَشَقَّقَ تَمَّ (طه: ۲۱۱) طَسَمَ تَمَّ اَيْتُ
اَلِكِتَابِ الْمُبِيْنِ (شعراء: ۲۱۱) طَسَمَ تَمَّ اَيْتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ
رَبِّ: ۱) يٰسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ (يس: ۲۱۱) صَ سَمِعْتُهُمْ شَقَاقِ تَمَّ (ص: ۱)
حَمْدُ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ سَمِعْتُهُمْ (مومن: ۲۴)
حَمْدُ عَسَقٍ سَمِعْتُهُمْ اَلْحَكِيْمِ تَمَّ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ رَق: ۱) تَمَّ وَالْقَلَمِ وَمَا
يَسْطُرُوْنَ (القلم: ۱) خاصیت: شیخ شرف الدین بونی کا قول ہے کہ جو شخص ہر
کی جھلی پر چودھویں شب کسی ماہ کو بعد نماز عشاء کے گلاب و زعفران سے یہ آیت لکھ

پوری ہو۔

۱۔ پُ ابقو شروع کے پُ اعز شروع کے پُ ارعد شروع کے پُ یونس شروع کے پُ ایم شروع کے پُ لہ شروع کے
پُ شراد شروع کے پُ یس شروع کے پُ ص شروع کے پُ شوری شروع کے پُ ق شروع کے پُ اقلع شروع -

۱۱ شروع شروع ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰

ہو جادوے اور اگر مرگی والے کو پہنا دیا جائے تو مرگی جاتی رہے۔

آشوب چشم سے حفاظت | اللہ، التَّصَّ، الصَّ، الذَّ، کَتَّ، عَصَّ، طَهَّ، الطَّسَمَّ

طسَّ، یَنسَّ، صسَّ، قسَّ، نَسَّ۔ خاصیت، ان حرفوں کو حرف بحرف مکرر نوچندی ہفتہ میں لکھ کر پئے تو سال بھر تک آشوب چشم سے محفوظ رہے۔

حصولِ علم اور زیادتی حافظہ | اللہ سے مُفْلِحُونَ تک جہرات کے روز شروع

دن میں پاک برتن پر مشک و زعفران سے لکھے اور آبِ چاہ شیریں سے دھو کر پئے اور اس روز کھانا نہ کھائے پھر رات کو پئے اور دن میں روزہ رکھے تین دن یا پانچ دن ایسا ہی کرے تو حافظہ میں زیادتی ہو اور نفس میں قوت ہو اور قلب میں علم کو قرار ہو، اور معرفت میں ترقی ہو۔

درندہ، آسیب اور بہت | یہ تین آیتیں حفاظت درندہ اور چور و دفعِ آسیب اور

سے امراض سے حفاظت | عافیت جہاں مال کے لئے اور شفاء جہاں جمیع امراض کے

لئے اکسیرِ اعظم ہیں آیات الحرس ان کا لقب ہے، وہ یہ ہیں۔ شروع بقرہ سے مُفْلِحُونَ

تک، آیتہ الکسی سے خَالِدُونَ تک، اللہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے آخر

سورہ بقرہ تک۔ تین آیتیں سورہ اعراف کی یعنی اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ سے مَتِ الدُّحَسِينِ

تک۔ آخری آیتیں بنی اسرائیل کی یعنی قُلْ اَدْعُوا اللهَ سے ختم سورت تک۔ شروع

۱۰ پ بقرہ شروع ۱۱ پ اعراف شروع ۱۲ پ رعد شروع ۱۳ پ یونس شروع ۱۴ پ مریم شروع ۱۵ پ لا

شروع ۱۶ پ شعراء شروع ۱۷ پ نمل شروع ۱۸ پ یس شروع ۱۹ پ ص شروع ۲۰ پ ق شروع

۲۱ پ انعام شروع ۲۲ پ بقرہ شروع ۲۳ پ بقرہ رکوع ۲۴ پ بقرہ آخری رکوع۔

۲۵ پ اعراف رکوع ۲۶ پ بنی اسرائیل رکوع آخری

دشمن کی تباہی کے لئے | جس دشمن کو شرعاً ایذا پہنچانا جائز ہو اس کے بدن کا ایک کپڑا لے کر اس پر اس کا اور اس کی مال کا نام سات مرتبہ لکھا جاوے اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا جائے اور اس میں یہ آیتیں لکھ دی جائیں اور اس پر ایک دائرہ کھینچ دیا جائے اسی طرح تین دائرے بنائے جائیں پھر اس کپڑے کو لپیٹ کر مٹی کے کسی کورے برتن میں رکھ کر ہفتہ کے روز اس کے گھر میں ایسی جگہ دفن کرایا جاوے کہ اس جگہ کسی کا پاؤں نہ آوے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ** **تَعْلَمُونَ** تک ۔

کھیتی اور باغ کی حفاظت | باغ اور درخت اور کھیت کو جمیع آفات و بلیات سے بچانے کے لئے غسل کر کے جمعرات کے دن روزہ رکھے اور جمعہ کے دن اس موضع کے چاروں گوشوں میں دو رکعت نفل پڑھے اَوَّلُ رَكْعَتٍ مِّنَ الْحَمْدِ اَوَّلُ السَّيِّئِ اور دوسری میں اَلْحَمْدُ اور اَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَا لَيْلٍ اَدَّاتٍ پڑھے اور اسی طرح دو رکعت اس کھیت یا گاؤں یا باغ کے بیچ میں پڑھے پھر ایک قلم چوب زیتون کا تراش کر زعفران سے یہ آیت مذکور اسی موضع کے کسی درخت کے سبز پتے سے لکھے اور ٹود

۱۷ صافات شروع ۷۲ پڑھیں الرحمن رکوع ۲۵۳ پڑھیں حشر رکوع ۲۵۴ پڑھیں جن رکوع ۱۔
۵۵ پڑھیں بقرہ رکوع ۲۵۶ پڑھیں فاتحہ مکمل پڑھیں التین مکمل ۷۵ پڑھیں نمل ۷۹ پڑھیں قریش مکمل

کی دھونی دے کر اس موضع کے سرے پر جدھر سے پانی آتا ہوگا اُسے اور دوسرا پتہ لکھ کر اس موضع کے ختم پر دفن کر دے اور میسر لکھ کر کسی اونچے درخت پر باندھ دے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا سے حفاظت رہے گی۔

درختوں کے پھل میں برکت | وَبَشِّرِ الدِّينَ اٰمَنُوْا سَے خِلْدُوْنَ تَمَكْ جُوْدَتْ

پھلتے نہ ہوں یا کم پھلتے ہوں ان کے بار آور کرنے کے لئے جمعرات کا روزہ رکھے اور صرف کدو سے افطار کرے اور نماز مغرب کی پڑھ کر یہ آیتیں کاغذ پر لکھے اور کسی سے بات نہ کرے اور اس کو لے کر اس باغ کے وسط میں کسی درخت سے کوئی پھل لے کر کھا کر اس پر تین گھونٹ پانی پیے اور چلا آئے انشاء اللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔

کشفِ علوم و تسخیر جن | وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ سَے اَلْحٰكِمٰتِ تَمَكْ

کشفِ علوم اور تسخیر جن و انسان کے لئے مفید ہے جس مہینہ کی پہلی تاریخ پنجشنبہ ہو غسل کر کے اس دن روزہ رکھے شام کو جو کی روٹی اور شکر اور کسی کے ساگ سے افطار کرے اور اپنے وقت پر سو رہے جب نصف شب ہوا اٹھ کر وضو کر کے روقیلہ بیٹھ کر یہ آیتیں ۳۳ بار پڑھے پھر کا پٹخ کے برتن پر مشک، زعفران و گلاب سے ان آیتوں کو لکھ کر آبِ ترالہ سے دھو کر پیئے اور سورہے سات روز اسی طرح کرے اور آخری دن یہ آیتیں ستر بار پڑھے مگر مکان تنہائی کا ہو اور عود کی دھونی دے کر پھر فارغ ہو کر انھیں کپڑوں میں سو رہے انشاء اللہ تعالیٰ مقصود حاصل ہوگا۔

سوئی ہوئی عورت سے راز معلوم کرنا | يٰٓاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰلَ اٰلَ اَدْرٰٓؤْا نَعْمٰتِیْ

سَے وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ تَمَكْ نا بالغ و ختر کے بدن کے کپڑے پر شب و شب میں جب

۱۵ پ بقرہ رکوع ۲ ۱۶ پ بقرہ رکوع ۳ ۱۷ پ بقرہ رکوع ۴

پانچ گھنٹے رات گزر جائے تو ان آیتوں کو لکھ کر سوئی ہوئی عورت کے سینہ پر رکھ دیں تو جو کچھ اُس نے کیا ہوگا سب تباد دے گی مگر یہ اسی جگہ جائز ہے جہاں شرعاً نجس جائز ہو ورنہ حرام ہے۔

پیاس کے مرض کا علاج | وَ اِذَا اسْتَسْقٰی مَوْسٰی سَی مَفِیْدٍ یَّتٰتٰکَ حِیْنَ

کو سفر میں پانی میسر نہ ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں پانی کثرت سے پئے اور پیاس نہ بجھے ان آیتوں کو مٹی کے کسی چکنے برتن میں جو تیل یا گھی سے چکنا ہو گیا ہو یا کاپنچ یا پتھر کے برتن پر لکھ کر باران ربیع کے پانی سے دھو کر ایک شیشی میں بھر کر تین روز نہنے دے پھر اس میں سُرخ بکری کا دودھ ملا کر آپنچ پر اس کو گاڑھا کرے اور پیاس میں صبح کے وقت دودرہم اور مبتلائے مرض سوتے وقت اسی قدر پیا کرے۔

مرضی کے مطابق سودا کرنا | قَالُوْا اِذْ عَلَّمْنَا بَدَیِّیْنَ لَنَا مَا هِیَ سَی

مُهْتَدٰۤی دُنَیْکَ جو شخص کوئی جانور یا لباس یا میوہ یا اور کوئی چیز خریدنا چاہے اور اس کو منظور ہو کہ ابھی چیز ملے تو اس چیز کو دیکھنے بھالنے کے وقت ان آیتوں کو پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ مرضی کے موافق چیز ملے گی۔

سوتے آدمی سے راز معلوم کرنا | وَ اِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا سَی تَعْلَمُوْنَ یٰۤاَیُّکُم

سوتے آدمی سے راز دریافت کرنے کے لئے ہے مگر جس جگہ معلوم کرنا شرعاً جائز ہو۔

دفعینہ معلوم کرنے کا عمل | بعض عارفین نے منقول ہے کہ یہ آیتیں اور سورہ شعراء

کا غز پر لکھ کر ایک سفید مرغ کی گردن جس کا تاج شاخ شاخ ہو باندھ کر جس جگہ دفعینہ کا شبہ ہو وہاں چھوڑ دیا جائے وہ مرغ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے گا اور لگے روز مر

۱۰ پ بقرہ رکوع ۱۰ پ بقرہ رکوع ۸ پ بقرہ رکوع ۱۰ پ شعراء مکمل۔

جائے گا مگر مجھ کو اس میں شبہ ہے کہ حیوان کا ہلاک کرنا عمل سے جائز ہے یا نہیں۔
جانوروں کی بیماری کا علاج | یہ بھی ان بزرگ سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز
 جب آفتاب نکلنے لگے تو یہ آیتیں برنوف کی چھڑی پر چالیس مرتبہ پڑھے جو یا نور
 کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہو اس چھڑی پر تھتکار کر اس سے سات مرتبہ اس کو بھاڑو
 پھر اس مرض پر تھتکارو **وے انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہوگا۔**

دل کی سختی دور کرنا | **اِنَّ تَقْسِتَ قُلُوْبُكُمْ سَے عَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَاصِیْت**، جس
 شخص کا دل کسی سے سخت ہو جائے یا اپنے گھروالوں سے تنگی کرے اور مزاج بگڑ
 جائے تو ایک کوری پاک ٹھیکری لے کر چوب آس سے اس شخص کا نام اس ٹھیکری
 پر لکھے اور قدرے شہد جس کو آنچ نہ لگی ہو اور انگوری سرکہ لے کر اس سے یہ آیت
 اس نام کے گرد لکھے اور اس ٹھیکری کو اس کوئیں یا نہر میں ڈال دے جس سے
 وہ پانی پیتا ہو۔

بادشاہ کی درستگی | اسی طرح اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے بگڑ جائے تو اس
 آیت کو کاغذ میں مع نام بادشاہ اور اس کی ماں کے لکھ کر پہاڑ میں کسی اونچی جگہ رکھ
 دے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حالت درست ہو جائے گی۔

جانوروں کا دودھ بڑھانے کا عمل | اگر گائے یا بکری کا دودھ گھٹ جائے تو
 کورے تانبہ کے برتن میں اس آیت کو لکھ کر اور پاک پانی سے دھو کر اس جانور
 کو پلایا جائے انشاء اللہ تعالیٰ دودھ بڑھ جائے گا۔

کنوئیں یا نہر کا پانی بڑھانے کے لئے | اگر کنوئیں یا نہر یا چشمہ کا پانی گھٹ جاوے

تو یہ آیت ٹھیکری پر لکھ کر اس میں ڈال دے۔

نظر بیدار سحر کا علاج | وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ

الْعِجْلَ يَكْفُرْ هَٰذَا قَوْلُ يُسْمِيَا مَرْكُومٍ إِنَّمَا أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ (بقرہ: ۹۳)

خاصیت، جو شخص اپنی ذہانت سے ظلم کے طریقے ایجاد کر کے لوگوں کو تکلیف

دیتا ہو اور اس کو مسلوب الفہم کرنا ہو تو یہ آیت ہفتہ کے روز کسی ٹھکانی پر لکھ کر تہار

مہ کھلا دے انشاء اللہ تعالیٰ پھر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آوے گی۔ وَاسْمِعُوا صَا

تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ سے لُوكَاؤُا يَعْلَمُونَ تک (بقرہ: ۱۰۲) کو رے تانبہ کے ٹشت

میں ان آیتوں کو لکھ کر اس کو کندر کی دھونی سے دھو کر پلایا جاوے اور

گھر میں چھڑک دیا جاوے تو جادو کا اثر جاتا رہے اور اس گھر میں کسی کو جادو کا اثر نہ ہو۔

اور اگر اس پانی سے ایسے شخص کو غسل دیا جاوے جس کو جادو یا نظر بد کا اثر ہو تو انشاء اللہ

تعالیٰ اس کا اثر دفع ہو جاوے۔

میلند سے بیدار ہونے کا عمل | وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّبِيِّ ذِكْرِ

(بقرہ: ۱۲۵) ایک عارف کے نوشتہ سے منقول ہے کہ اس آیت کو اگر سوتے وقت پڑھے

جس وقت چاہے گا آنکھ کھلے گی۔

خونی بوا سیر کا علاج | وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (بقرہ: ۱۲۵)

بعض عارفین کا قول ہے کہ اس آیت کو بلوری برتن پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر

آب انگوڑیاہ سے دھو کر اس میں قدر سے کہریا اور قدر سے کافور اور کچھ شکر ملا کر پینے

سے خونی بوا سیر کو نفع ہوتا ہے۔

تولنج و لقوقہ و ریاح کے لئے | قَدْ نَزَّلْنَاهُ تَقْلَبَ سَے يَعْصُونَكَ (بقرة: ۱۲۸) یہ آیت تولنج اور لقوقہ اور ریاح رو دیر کے لئے مفید ہے جو شخص اس میں مبتلا ہو تو قلعی وارتانیہ کا طشت لے کر اس کو خوب صاف کرے اس میں یہ آیتیں مشک و گلاب سے لکھ کر پاک پانی سے دھو کر لقوقہ والے کامتہ دھلایا جاوے اور متہ دھونے کے بعد اس طشت میں تین گھنٹہ تک نظر رکھے اسی طرح تین روز کرے اور فالج اور ریاح والے پر وہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔

چوری شدہ مال کی واپسی | اَوَلَيْكَ وَجْهٌ هُوَ مَوِيَّتْهَا سے قَدَائِرُ: بیشک
(بقعہ: ۱۳۸) اس آیت کو کورے کپڑے کے گول کٹے ہوئے ٹکڑے پر لکھ کر اس میں چور
یا بھاگے ہوئے آدمی کا نام لکھ کر جس مکان میں چوری ہو یا جس مکان سے کوئی بھاگا ہے
اس کی دیوار میں صبح سے گاڑ دیا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ مال مسروقہ یا گریختہ واپس آدیکھا۔
مودی جانوروں کی ہلاکت کے لئے | اَللّٰهُ تَرَاتِي الدَّيْنَ خَوْجُو اَسْ يَشْكُرُونَ
بیشک (بقعہ: ۲۳۲) طشت میں سیاہی سے لکھ کر شیرہ برنوف یا شیرہ برگ زیتون سے دھو
کر گھر میں چھڑکتے سے جس قدر سانپ بھپو پشو چھڑ ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ سب مر جائیں
گے اور جمعرات کے روز سحر کے وقت زیتون کے چار پتوں پر لکھ کر ایک پتہ مکان کے
ایک ایک گوشہ میں دفن کر دیا جاوے۔ تو کوئی چھڑ باقی نہ رہے۔

وَشِمْنَ بِرُغْلَيْهِ وَحُصُولُ جَاهٍ نَبْطَرُ حَكَا مُرَامًا | اَلَمْ تَرَ اِلَى الْاُمَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ لَئِنْ لَمْ يَبْرُكْ لَنَا مَلِكٌ نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا اَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَآبَاءِنَا قَالُوا لَمْ يَكُنْ لَنَا قُوَّةٌ قَالُوا لَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوَاتُؤًا اَلَا قَلِيلًا

عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْظَالِمِينَ (بقرہ: ۲۲۶) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید
 میں چار آیتیں جن میں دس دس قاف ہیں تو مجموعہ چہل قاف ہوا، ان کا لقب آیات
 حزب ہے ایک آیت تو یہی ہے جو اوپر گزری، دوسری آل عمران میں ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ
 اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَكُنَّا أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ
 قَتَلْنَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْعَذِيقِ (آل عمران: ۱۸۱)
 تیسری سورہ نسا میں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرْقٌ مِّنْكُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
 كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا
 أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
 وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (نساء: ۷۷) اور چوتھی سورہ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ
 آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قَرْبَانَ تَفْتِيَسَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
 الْآخِرَةِ قَالَ لَا أَقْبَلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ: ۲۷)
 ان کی خاصیت جہاد و منزلت کا حصول اور غلبہ بمقابلہ اعدا ہے اگرچہ ہر ایک کی جگہ
 تو مقابلہ میں ہرگز شکست نہ ہو اور دشمنوں پر فتح و ظفر حاصل ہو اور اگر کاغذ پر لکھ کر سر
 میں رکھ کر امر اور حکام کے پاس جہاد سے تو اس کی بڑی قدر و عظمت ان کی آنکھیں ہو
 ہر قسم کی آفات سے حفاظت اور زیادتی رزق | اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ سَعَةً خَالِدُونَ تک جو شخص ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا
 کرے شیطان کے دوسو سالہ اور سرکش شیطانوں کے مکر ایذا سے محفوظ رہے اور
 فقیر سے غنی ہو جہاد سے اور ایسے طریق سے رزق ملے کہ اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اس کو

۱۷ پی توہرہ رکوع، ۱۸ پی بقرہ رکوع، ۱۹ پی بقرہ رکوع، ۲۰ پی آل عمران شروع۔

رہ کے گھلے میں اٹکایا جائے تو آسیب اور ام الصبیان و نظر بد اور جمیع آفتاب سے محفوظ رہے۔

قبولیت میں زیادتی اور دشمن سے حفاظت | بہن کی بھتی پر باریک قلم سے لکھ کر نگین انگشتی کے نیچے رکھ لیا جاوے جو شخص با وضو پینے جاوے قبولیت حاصل ہو اور دشمن سے محفوظ رہے۔

قوت حافظہ اور تیزی ذہن | **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ** سے **لَا يُخَفِّفُ الْمِيعَادَ** تک یہ آیت قوت حافظہ و تیزی ذہن کے لئے مفید ہے جمعہ کے روز سبز کاغذ پر زعفران اور گلاب سے لکھ کر آب نہر جاری سے دو ہر نہار منہ سات جمعہ تک آفتاب نکلنے سے پہلے پیئے اور اس روز کوئی شبہ کی چیز اور کسی قسم کا گوشت نہ کھاوے انشاء اللہ تعالیٰ مراد حاصل ہوگی۔

رزق میں وسعت اور ادائے قرض | **قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ اَنْ تُدْرِكَ** سے **يَغْنِيْ حَیَاتِی** تک جو شخص کثرت سے ان آیتوں کو قرض نمازوں کے بعد اور نوافل کے بعد اور سوتے وقت پڑھا کرے اس کو روزی اور وسعت نصیب ہو اور اس کے مال میں ترقی ہو اور تنگ دستی دور ہو۔

کیمیا اور خفیہ علوم حاصل کرنا | جو علم کیمیا کا طالب ہو اور کسی مخفی علم کو دریافت کرنا چاہے تو اقل غسل کرے اور متواتر چالیس روز سے رکھے اور حلال غذا سے افطار کرے اور ہر شب سوتے وقت سورۃ الشمس اور الویل اور الفیٰ اور الم نشرح سات سات بار پڑھے اور آیت موصوفہ سات بار پڑھے پھر درود شریف پڑھ کر دعا کرے

۱۰ پتہ ال عمران رکوع ۲۵ پتہ ال عمران رکوع ۳

کہ الہی فلاں علم جو اکثر مخلوق سے پوشیدہ ہے میرے لئے آسان کر دے انشاء اللہ تعالیٰ
بیداری میں یا خواب میں کوئی بتلا جائے گا۔

خرزنیہ و دقینہ معلوم کرنے کا عمل | جو شخص دقینہ و خزانہ پر مطلع ہونا چاہے تو ان

آیتوں کو تانبے کے برتن پر مشک و زعفران سے لکھے پھر بلبلہ زرد و آبِ طوبِ خستِ نختہ و آبِ میوہ ہمز
سے اس کے حروف دھو کر سیاہ مرغی کا پتہ یا سیاہ لبط کا پتہ اور پانچ مثقال سرمہ صغھانی لے کر اس
پانی میں ملا کر خوب باریک پیسے حتیٰ کہ وہ باریک سرمہ ہو جاوے اور رات کے وقت پیسا کرے
تاکہ اس پر دھوپ نہ پڑے جب وہ سرمہ بن جائے کاپنج کی شیشی میں رکھ کر ادا آبنوس کی سلائی
سے اس کا استعمال اس طرح کرے کہ اول جمعرات کے دن روزہ رکھے جب نصف شب کا
وقت ہو درود شریعت پڑھے اور آیات موصوفہ ستر بار پڑھے پھر اسی سلائی سے دونوں آنکھوں میں تین
تین سلائی اس سرمہ کی لگا دے اور دامنہ آنکھیں پہلے لگا دے اسی طرح سات رات تک کرے کہ
دن میں روزہ رکھے اور رات کو درود شریف استغفار و آیات پڑھے اور سرمہ لگا دے اس شخص کو جو کچھ شیئ
روحانہ نظر آویں گے ان سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ وہ اس کے سوال کا جواب دیں گے۔

درستی سامان دنیا و آخرت | الملک حروف جدا جدا اس طرح لکھے ا ل م

ل ک اور ہر روز درمیان کے حرف یعنی میم کو چالیس بار یہ آیت پڑھتا ہوا دیکھے
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے سامان اس کے لئے درست فرمادیں اور سب حاجتیں پوری فرمائیں۔

حفاظتِ حمل | اِذْ قَالَتِ امْرَاةٌ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ تَدَارٰتُ لَکَ سَیِّئًا

حساب تک یہ آیت حفاظتِ حمل اور بچوں کو آفات و تغیرات اور عیوب اور بد نظر

سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے ان آیتوں کو گلاب اور زعفران سے ہرن کی جھلی پر لکھ کر

حاملہ عورت کی دامنہ کو کھ میں باندھ دیں وضع حمل تک بندھا رہے انشاء اللہ تعالیٰ

تمام آفات سے مامون رہے گا۔

بچے کے رونے اور ڈرنے کا | اگر مشک وزعفران سے لکھ کر تانبے کی یا لوہے کی
علاج اور دودھ میں زیادتی | نلکی میں رکھ کر بچے کے گلے میں لٹکا دیا جاوے تو
رونے اور ڈرنے اور بدخوابی سے حفاظت رہے اور ماں کے تھوڑے دودھ سے

آسودہ ہو جائے اور اگر دودھ کم ہو تو بڑھ جاوے اور بچہ کا نشو و نما خوب ہو۔

تجارت میں اضافہ | قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ س وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ تک۔ جمعرات کے روز با وضو کسی طالع مندر آدمی کے کرتے کے ٹکڑے پر
اس آیت کو لکھ کر دکان یا مکان میں یا غریب و فردخت کی جگہ لٹکا دے خوب آمدنی ہو۔
کاروبار اور شادی کے لئے | اور اگر اس کو کاغذ پر لکھ کر کسی بے کار آدمی کے
بازو پر باندھ دیا جائے تو با کار ہو جاوے یا جس نے کہیں پیغام نکاح بھیجا ہو اس
کے بازو پر باندھا جاوے اس کا پیغام منظور ہو جاوے۔

خفقان کا علاج | أَفْعَيْدِينَ اللَّهُ يَبْعُونَ سَخِيسِينَ تک یہ آیتیں
خفقان قلب کے لئے مفید ہیں مٹی کے کورے برتن میں لکھ کر بارش یا شیریں کنوئیں
کے پانی سے جس پر دھوپ نہ آتی ہو دھو کر مرلیض کو پلا یا جاوے انشاء اللہ
تعالیٰ صحت ہو جاوے۔

طالب مطلوب میں دوستی | وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا س مَفْلِحُونَ تک
اگر عروج ماہ میں دو شنبہ کے روز ہرن کی جھلی پر قوت کے عرق سے لکھ کر آخر میں
یا مؤلف القلوب الف ہیں فلاں فلاں کی جگہ ان دونوں شخصوں کا نام لکھے جن میں الفت

۱۰ پٹ آل عمران رکوع ۸ ۱۱ پٹ آل عمران رکوع ۹ ۱۲ پٹ آل عمران رکوع ۱۱

پیدا کرنا منظور ہوا اور طالب کے بازو وغیرہ پر باندھے مطلوب مہربان ہو جائے گا اگر عداوت ہوگی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر غضب ناک ہوگا مہربان ہو جائے گا اور اقبال اور جاہ میسر ہوگا اور اگر اس کو واعظ اپنے پاس رکھے اس کا وعظ مقبول اور موثر ہو۔

دشمن کے مقابلہ پر فتح | لَنْ يَفْزُوكُمْ إِلَّا آذًى سَ كَانُوا يَعْتَدُونَ تک یہ آیتیں دشمن پر فتح یابی اور اس کو جنگ و کارزار سے روکنے کے لئے ہیں تلوار یا ڈھال یا نیزہ یا کسی ہتھیار پر شنبہ کے روز چھٹی ساعت میں اس کو کندہ کرے اور کندہ کرنے والا روزہ سے ہو وہ ہتھیار لے جو شخص مقابلہ دشمن میں جاوے گا قتیاب ہوگا۔

رات میں خوف جن اور ظالم | اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ تک یہ آیتیں خوف بادشاہ ظالم و دشمن اور شب

کے وقت جن یا انسان کے خوف کے لئے ہیں اس کو ہر شب جمعہ میں نصف شب کے وقت با وضو لکھے پھر کاتب صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک تسبیح و ذکر میں مشغول بیٹھا رہے جب آفتاب بلند ہو جائے دو رکعت پڑھے اول میں فاتحہ اور آیتہ الکرسی اور اَمِنْ الرَّسُولِ سے آخر سورۃ تک پڑھے پھر سات مرتبہ استغفار پڑھے اور سات مرتبہ حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پڑھے پھر تازہ وضو کر کے یہ آیتیں لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ تعالیٰ مراد حاصل ہو۔

تیزی نفس اور ظلم و دشمنی سے حفاظت | اَلَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالْفَرَائِدِ سے وَنَعُوْا اَجْوَدُ الْعَمِلِیْنَ تک یہ آیتیں سکون تیزی نفس و غضب اور سلطان

۱۰ پ آ عمران رکوع ۱۲ پ آ عمران رکوع ۱۳ پ بقرہ رکوع ۳۲ پ قمرہ رکوع ۱۱ پ آل عمران رکوع ۱۳

جابر دشمن جاہل کے لئے ہیں، شب جمعہ میں بعد نماز عشاء کا غڈ پر لکھ کر باندھ لے اور صبح کو ان لوگوں کے پاس جاوے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رہے۔

نکسیر کا علاج | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ سَيُفْلِكُ بِهِ قُلُوبُ النَّاسِ وَلَئِنْ رَأَوْهُ كُنُوزًا يَكْفُرُوا
ہو تو اس آیت کو مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جاوے تو اس آیت کو تین پرچوں پر لکھے ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے ایک پچھلے دامن میں ایک زیر ناف۔

ظالم حاکم سے حفاظت | الَّذِينَ قَالُوا لَهْمُ النَّاسِ مِنْ دُونِ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
تک جو شخص یہ آیتیں ایک پرچہ پر لکھ کر نگین انگشتری کے نیچے رکھ لے اور وہ انگشتری پہن کر کسی جابر حاکم کے پاس جاوے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔
مضبوطی ایمان و پاک قلب | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ لَآئِحَاتٍ
اَلْيُسْتَعَادُ تَمَّ جَوَافُ السَّمَوَاتِ اَلْيُسْتَعَادُ تَمَّ جَوَافُ السَّمَوَاتِ اَلْيُسْتَعَادُ تَمَّ جَوَافُ السَّمَوَاتِ
اور قلب پاک ہو اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے اور اگر لکڑی کے برتن پر لکھ کر اور زمزم کے پانی سے دھو کر پیوے جس وقت رات کو اٹھنا چاہے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔

دشمن پر غلبہ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ آيَاتٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
پر بحث میں غالب آنے کے واسطے اتوار کے روز روزہ رکھے اور ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر باندھ لے اور اگر دولہا دلہن گلاب و زعفران سے لکھ کر اپنے عمامہ یا پیشانی پر باندھ لے یا لکھ کر پی لیوے تو دجاہست تریادہ ہو۔

لے پے آل عمران رکوع ۵، لے پے آل عمران رکوع ۸، لے پے آل عمران رکوع آخر تک، لے پے آل عمران رکوع آخری

صبر وقناعت و اخلاق حسنہ | وَ لِلّٰهِ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ سے فتنہ نقلیوں کو خیرین تک جو شخص ان آیات کو طلوع آفتاب سے
پہلے اپنی دامنی پتیلی پر لکھ کر زبان سے چاٹ لے اور نگل جاوے متواتر سات
روز تک اسی طرح کرے اللہ تعالیٰ اس کو عفو اور عافیت اور قناعت اور صبر اور
رقت قلب اور ہمدردی اہل اسلام عطا فرمائیں گے۔

کند ذہنی اور ظالم سے نجات | قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِصُوْنَ
مِنَ آيٰتِ السَّبۡئِلِ تک۔ یہ آیتیں دشمن کی رو سیاہی اور کند ذہنی کے لئے ہیں جو
شخص ناحق ایذا دیتا ہو اور ظلم کرتا ہو اور تمھاری صبر و شکیبائی پر بھی باز نہ آئے
تو جمعرات کا روزہ رکھو اور نماز عشا پڑھ کر ان آیتوں کو کسی وقفی گھر کی ایک
مشت خاک پر بیس بار پڑھ کر اس شخص کے گھر میں وہ مٹی چھوڑ دو پھر اس کی جان
و مال کا متا شادیکھو۔

نا جائز اجتماع میں تفریق | وَقَالَتِ الْيَهُودُ ذِيْدٌ اٰلِہٖٓ مَعْلُوْلٌ سے
اَلْمُفْسِدِیْنَ تک۔ جب کوئی مجمع کسی ناجائز غرض پر متفق ہو جائے اور ان میں تفریق
منظور ہو تو ان میں جو سب سے بڑی عمر کا آدمی ہو اور جو سب سے چھوٹی عمر کا آدمی ہو
ان دونوں کے تھوڑے تھوڑے بال لے کر ان کو آگ میں خاکسبز کر لو پھر یہ آیتیں
کسی بڑے پاک برتن میں لکھ کر اور اس کو برگِ حرام کے عرق سے دھو کر وہ پانی اور
وہ لاکھ اس مقام میں ڈال دو انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہرگز ہرگز ان میں اجتماع نہ ہوگا۔

رزق میں برکت و وسعت و بھوک کا علاج | اِذْ قَالَ الْخَوٰیٓمُ یٰٓعِیْسٰی ابْنُ

لے پٹ ماندہ رکوع ۳۷ سے پٹ ماندہ رکوع ۹ سے پٹ ماندہ رکوع ۲۷ سے پٹ ماندہ رکوع ۱۵

مَدَن سے خیرِ الزائنین تک۔ یہ آیتیں وسعتِ رزق اور برکت اور دفعِ گرسنگی کے واسطے ہیں۔ جھاڑ کی لکڑی کے برتن میں ان کو با وضو لکھ کر اپنے پاس رکھے جب ضرورت ہو اس میں پانی بھر کر جس گھریا کھیت یا باغ میں برکت حاصل کرنا منظور ہو وہ پانی چھڑکے اور اگر دل چاہے تو تین مہفتہ متواتر وہ پانی پیئے انشاء اللہ تعالیٰ جان اور مال میں برکت ہوگی۔

جہانوروں کی حفاظت | سورہ انعام: خاصیت، اگر مویشی کے گلے میں باندھ دیں تو ان کو تندرستی اور جمیع آفات سے امن حاصل ہو۔

برائے امن دفعِ آفات | اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ سَیَّعِدْ لُوْنِ سَمَکِ خَاصِیَّتْ جو شخص اس آیت کو صبح و شام سات بار پڑھ کر اپنے بدن پر ہاتھ پھیرے۔ جمیع درد و آفات سے محفوظ رہے۔

غصہ رنج اور پیاس کا علاج | وَلَکُمْ مَّا سَکَنَ فِی الْبَیْلِ وَالنَّہَارِ وَهُوَ السَّیِّئُ الْعَلِیْمُ یہ آیت تسکینِ غیظ و غضب اور دفعِ تشنگی اور رنج کے لئے ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے اور یہ آیت کثرت سے پڑھے۔

ذاتِ الجنب درد و تکلیف سے نجات | وَ اِنْ یَسْئَلْکَ اللّٰہُ بِضَیِّ فَلَہٗ کَاشِفٌ لِّہٖ اِلَّا هُوَ سَے اَلْخَبِیْرُ سَمَکِ خَاصِیَّتْ، یہ آیتیں کاغذ پر لکھ کر جس شخص کو ذاتِ الجنب یا قلب یا ہاتھوں میں درد ہو اس شخص کے باندھ دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی اور جس شخص کو کثرت سے رنج و غم یا تنگ دلی ہو خواہ اس کا سبب معلوم ہو یا نہ ہو ان آیتوں کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھ کر سوراہے

۱۔ پ ۱ انعام مکمل ہے پ ۱ انعام شروع ہے پ ۱ انعام رکوع ۲ ہے پ ۱ انعام رکوع ۲

جس وقت جاگے گا رنج و غم سب دفع ہو اور معلوم ہوگا۔

آنکھوں کی بیماری کے لئے | اِنَّهَا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ سِرِّجُوْنَ

تک۔ جس کی آنکھوں میں کچھ فتور ہو یا کسی عضو میں استرخاء ہو تین روز متواتر روزہ رکھے اور دودھ شکر سے افطار کرے اور نصف شب کے وقت اٹھ کر تانبے کے قلم سے زعفران و گلاب سے اپنے یا دوسرے مرین کے واسطے ہاتھ پر لکھ کر چاٹ لے تین روز تک ایسا ہی کرے۔

ظالم کی بربادی | فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا سَمِعُوا رَبَّهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا سَمِعُوا رَبَّهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا سَمِعُوا رَبَّهُمْ

کی خانہ ویرانی اور ان کی جماعت کی پراگندگی مقصود ہو۔ خاصیت: ان آیتوں کو کسی مذبح جانور کی پُرانی ہڈی پر لکھ کر پھر اس کو باریک کوٹ کر اس کے گھر میں ڈال دے۔ دفع ٹھیکر و لیسٹو | مذکورہ آیت رحمان سے لکھ کر اور آب زہرہ سے جس کو عشاء سے صبح تک بھگو یا ہو دھو کر جس گھر میں ٹھیکر اور لیسٹو زیادہ ہوں چند بار پھیر کئے سے وہ سب دفع ہو جائیں۔

مشتبہ کا راز معلوم کرنا | وَعِنْدَ مَقَارِقِ الْعَيْبِ سَمِعَ الْحَاسِبِينَ

اگر کتان کے کپڑے میں لکھ کر سر ہانے رکھ کر سو رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ فلاں امر مشتبہ جس کا تحقیق حال کرنا منظور ہو مجھ کو خواب میں معلوم ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف ہو جائے گا۔

عجیب بات سننا | اگر اس آیت کو با وضو لکھ کر بازو پر باندھ لے اور پاک بستر پر سو رہے صبح کو جس شخص سے اس کی ملاقات ہوگی کوئی عجیب بات کرے گا۔

۱۔ پٹ انعام رکوع ۴ ۲۔ پٹ انعام رکوع ۵ ۳۔ پٹ انعام رکوع ۶

دربا کی طغیانی روکنے کے لئے | قُلْ مَنْ يُخَيِّكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الدِّیْرِ سے
تشریکوت تک۔ اگر دریا میں جوش و طوفان و طغیانی ہو یہ آیتیں لکھ کر دریا میں ڈالتے
سے طوفان کو سکون ہو جاتا ہے۔

چور و بھاگے ہوئے کے لئے | قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ سے لَدِبِّ الْحَلِیْمِ
تک۔ یہ چور اور گریختہ کے واسطے ہے کسی پرانی مشک کا ٹکڑا یا کدوئے خشک کا پست
لے کر پرکار سے اس پر دائرہ نکالا جاوے اور دائرہ کے اندر یہ آیت اور دائرہ
سے خارج چور یا گریختہ کا نام مع اس کی ماں کے نام کے لکھ کر ایسی جگہ دفن کرے
جہاں کوئی چلتا نہ ہو انشاء اللہ تعالیٰ چور یا گریختہ حیران و پریشان ہو کر واپس آجائے گا۔
حکام اور عوام میں مقبولیت | وَكَذٰلِكَ نُبَيِّنُ لِقَوْمٍ اٰبْرَٰهِيْمَ مِنْ الْمُنْتَرِكِيْنَ
تک یہ آیتیں درستی رائے اور فہم اور امن و امان اور آبرو و پیش حکام اور غلبہ گفتگو
کے لئے مفید ہیں۔ غرض اول کی تحصیل کے لئے گلاب و زعفران سے صینی کی طشتی
پر لکھ کر نہر کے پانی سے دھو کر پی لیوے رائے درست ہو۔ دوسری غرض کے لئے کپڑے
کے برتن پر گلاب و زعفران سے لکھ کر شہد خالص سے دھو کر اصفہانی سرمے میں خوب
باریک پس کر جو شخص آنکھوں میں لگائے امراء و حکام اور عوام کی نظر میں مقبول و محبوب
ہو غرض ثلث کی تحصیل کے لئے گلاب و زعفران سے لکھ کر اور گلاب جس میں میسوں
جوش دیا ہو اور آب آس سے دھو کر نہار متہ بدھ کے روز شروع دن چار بدھ تک
جو شخص پیئے اپنے مقابل پر بحث و گفتگو میں غالب ہو۔

دشمن کی بربادی کا عمل | وَكَوْنُ تَرَىٰ اِذَا الظَّالِمُوْنَ فِیْ عَمْرَاتِ الْمَدِيْنَةِ سے

لے پ انعام رکوع ۷ آیت پ انعام رکوع ۹ آیت پ انعام رکوع ۱۱

تَذَعْمُونَ نیک۔ یہ آیتیں دشمن کی بربادی و خانہ ویرانی کے لئے ہے جس شخص کا کوئی دشمن ہو اور اس کی ایذا رسانی کے درپے ہو وہ تین پتے درخت بید کے اتوار کے روز طلوع آفتاب سے پہلے اس طرح لے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے اور ہر پتے پر ایک رُخ پر یہ آیتیں لکھے اور دوسرے رُخ پر ان لوگوں کے نام لکھے، مگر لکھتے وقت بھی کوئی نہ دیکھے پھر ہر روز ایک ایک پتا ان کے پینے کے پانی میں ڈال دے یا ان کے گھر میں جس جگہ موقع ہو رکھ دے۔

کھیتی و باغ کی حفاظت | اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْمِ آخر تک کھیت

کی عمدگی اور تمام حیوانات کی حفاظت کے لئے اور درختوں کی پیداوار اور عمدہ طور پر پسل کھانے کے لئے کسی پاک برتن میں زعفران اور کافور سے لکھ کر اور آب چاہ بلا جگت سے دھو کر جو تحم یا غلہ بونا ہو اس میں بھگو کر بودیں یا وہ پانی درخت کی جڑ میں چھوڑا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ برکت و حفاظت اور پھلوں میں خوبی شیرینی حاصل ہوگی۔

کشتی اور جہاز کی حفاظت | قَالِقُ الْاَصْبَاحِ سے يَعْلَمُونَ تک۔ اس آیت کو جمع کے روز با وضو ساکھو کے تختہ پر یا کسی اور لکڑی پر لکھ کر کندہ کر کے کشتی کے آگے باندھ دینے سے تمام آفات سے کشتی محفوظ رہے گی۔

حاجت روائی و وجاہت | آیت مذکورہ بالا لا جو رد کے نگیں پر بدھ کے روز کندہ کر کے انگوٹھی پہنے ہر طرح کی حاجت روائی ہو اور قبولیت اور محبت اور مہیبت، لوگوں کی نظر میں پیدا ہو۔

درخت اور پھلوں میں برکت | ذَهْوَا الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سے

يَوْمَ مَنُونٍ تَمَك۔ اس آیت کو کھجور کی کٹی کے غلاف میں جب اوّل اوّل سورج نکلے
جمعہ کے روز لکھ کر آب پاشی کے کنوئیں میں ڈال دے اس کے پانی میں اور وہ پانی جس
درخت یا پھل میں دیا جاوے ان سب میں برکت اور پاکیزگی پیدا ہو اور تمام جن انسان
کی نظر بد اور سب آفات سے محفوظ رہے۔

طوفان میں کمی اور ظالموں سے حفاظت | لَا تُذَرِكُمْ إِلَّا بَصَادُوسَ الْخَبِيرَاتِ
اس آیت کو بکثرت پڑھنے سے ہوائے تند کو سکون ہوتا ہے اور ظالموں کی نگاہ سے
پوشیدہ رہتا ہے۔

کسی سے راز معلوم کرنا | اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا سَيَحْيُوْنَ تَمَك
سے سات حروف جو سورہ فاتحہ میں جمع ہیں وہ اس آیت میں جمع ہیں۔ اشج خ ز
ش ف ظ اہل نین کا قول ہے کہ خ کے لئے انوار کا روز مخصوص ہے اور یہ آیتہ اور
ش کے لئے پیر کا روز اور اسم شاکر اور ز کے لئے منگل اور اسم ذکی اور ظ کے لئے
بدھ اور اسم ظاہر اور ث کے لئے جمعرات اور اسم ثابت ج کے لئے جمعہ اور اسم جبار
اور ف کے لئے ہفتہ اور اسم فاتحہ اگر کوئی ستر عجیب معلوم کرنا ہو تو اوّل سات روز
رکھے اور ان میں قرأت قرآن و دعائیں مشغول رہے اور ثلث آخر میں آب سرد سے غسل
کر کے ذکر میں مشغول رہے صبح کی نماز کے بعد سورہ بے اور طہ اور تبارک الذی اور
درود شریف پڑھ کر وہ آیت یا اسم جو ہر روز کے لئے مخصوص ہے سات مرتبہ پڑھے
انشاء اللہ تعالیٰ وہ راز معلوم ہو جائے گا۔

قبولیت دعا | وَاِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا سَ رَسُولٌ مِّنْ سَمِئِلٍ
اس آیت میں

جو لفظ اللہ دوبار متصل آیا ہے ان کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔

ترقی پھل و حفاظت جانور | اِنَّهُوَ الَّذِي اَنْشَأَ السَّمٰوٰتِ سَبْعًا | اس آیت

کوزیتوں کی تختی پر لکھ کر یا کندہ کر کے باغ کے دروازہ پر لٹکا دے تو پھل خوب پیدا ہوں اور اگر مینڈھے کے مذبح چمڑے پر لکھ کر جانور کے گلے میں باندھ دیا جاوے تو اس میں نجات ظاہر ہو اور سب آفات سے محفوظ رہے۔

حفاظت از شیاطین فالج و لقوہ وغیرہ | اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

سے دَبَّ الْعَلَمِیْنَ تک سوتے وقت اس کو پڑھنے سے شیاطین کی شرارت اور فالج اور لقوہ سے محفوظ رہتا ہے۔

تشب میں جاگنے کے لئے | اور آیت مذکورہ المحسنین تک پڑھ کر دعا کر دو کہ نیند جاتی

رہے تو نیند جاتی رہے گی

دوکان مکان مال اسباب کی حفاظت | اور اگر مذکورہ آیتیں مع آیات او اخر سورہ

برأت لَقَدْ جَاءَكُمْ دَسُوْلٌ فَمِنْ اَنْفُسِكُمْ اَخْرَجْكُمْ دُوْكَانَ یَا مَكَانَ یَا اَسْبَابُ مال پر پڑھ دی جاویں تو ہر طرح کی حفاظت رہے۔

نظر بد و شر سے بچنے کے لئے | اِذَا الْمُسْلِمِیْنَ تک گلاب و زعفران و مشک سے لکھ کر

باندھ دے لوگوں کے شر اور نظر بد سے اور وجع قواد اور دشمن اور مار و کدہم محفوظ رہے۔

رزق و زیادتی روزگار | اِنَّ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ | تک بکثیر رزق اور زیادتی

معاش کے لئے جمعہ کے روز جب سب نماز سے فارغ ہو جاویں لکھ کر دوکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔

۱۔ انعام رکوع ۱۷ ۲۔ اعراف رکوع ۱۷ ۳۔ پ تو بر آخری رکوع ۱۷ ۴۔ اعراف رکوع ۱۷

توفیق تو بہ اور اطاعت | یٰبَنِی آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا سَیِّئًا حَقُّوْنَ تَمَّ جَمْعَاتِ کَے

روزِ عروجِ ماہ میں نیا کرتہ پہن کر دو رکعت شکرانہ کے کہ نیا لباس پہنا ہے پڑھے، پھر یہ آیت مذکورہ کا پنج کے برتن پر روغنِ چنبیلی سے لکھ کر گلاب سے دھو کر وہ تیل اپنے چہرے پر ملیں پھر زمیون کے پتے پر یہ آیت لکھ کر اس کرتہ کے گریبان میں رکھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے پہننے والے کو ہمیشہ توفیق تو بہ اور اطاعت کی رہے گی۔

دفع زہر و چشم بد و سحر وغیرہ | یٰبَنِی آدَمَ حُذُّوْا زِیْنَتَکُمْ سَے تَعْلَمُوْنَ تَمَّ

یہ آیت زہر و چشم بد و سحر کے دفع کرنے کے لئے مفید ہے جو شخص اس کو انگوڑی سبز کے عرق اور زعفران سے لکھ کر اگلے کے پانی سے دھو کر غسل کرے چشم بد اور جادو اس سے دفع ہو اور جو کھانے میں ملا کر کھاوے تو زہر سے مامون رہے اور سحر اور نظر بد سے بھی۔

ظالم کی قید بڑھانا | قَالِ اَدْخُلُوْا فِیْ اُمَمٍ سَے لَا تَعْلَمُوْنَ تَمَّ جس شخص کا ظالم

دشمن قید میں ہو اور اس کی قید کی میعاد بڑھانا منظور ہو اس کو سرخ رنگ کے بڑنالا کی جھلی پر لکھے۔ اور اس شخص کا نام محمد اس کی والدہ کے لکھے اور قید خانے کے دروازے میں دفن کرے، قید دراز ہو جائے۔

مخالفین میں اتفاق پیدا کرنے کے لئے | وَتَوَعَّلَمَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ سَے یٰہَا کُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ تَمَّ جو تراشیدہ قلم سے مٹھائی پر لکھ کر بن لوگوں میں بغض و عداوت و نا اتفاق ہو ان کو کھانے سے الفت و محبت و اتفاق پیدا ہو جاوے اسی طرح فرمایا ابجیر یا بیر پر لکھ کر کھانے سے بھی اثر ہوتا ہے

شفاء از وجع قلب | آیت مذکورہ کو مٹی کے گورے برتن پر جب وہ آدہ سے تازہ نکلا ہو

لے پٹ اعراف رکوع ۴ لے پٹ اعراف رکوع ۴ لے پٹ اعراف رکوع ۴ لے پٹ اعراف رکوع ۴

حفاظت و برکت درختاں | دُھوَالَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیْحَ سَے یَشْفَعُونَ لَکَ

یہ آیت درخت کو برقم کے آفات کیڑا اور تعفن اور طبع اور چوہا اور موذی جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لئے مفید ہے زمین کی چرب پر آب سیب اور زعفران اور عرق انگور سے لکھ کر اور آب انگور سے دھو کر تھوڑا سا درخت کی جڑ میں چھوڑ دیں اور اوپر سے خالص پانی بھریں انشاء اللہ تعالیٰ اس درخت کی حالت درست ہو جائے گی۔

موذی جانوروں سے حفاظت | اَقَامَتْ اَہْلُ الْقُرْیَہِ سَے اَلْخِیْرُوْنَ تَکَ

حرم کی پہلی تاریخ میں اس کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر وہ پانی جس گھر کے گوشوں میں پھڑک دیا جاوے وہ سانپ اور کچھو اور موذی جانوروں سے سلامت رہے۔

جنت میں داخل ہونے کی بشارت | وَ لِلّٰہِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی کَا دُعُوْہُ بِہَا ۔

اسماء حسنیٰ کے یاد کرنے اور عمل کی برکت سے دخول جنت کی بشارت آتی ہے اور اس

کے توسل سے مانگنا موجب قبولیت ہے، ترمذی وغیرہ میں ننانوے نام مبارک

آئے ہیں اور قرآن مجید میں اس ترتیب سے مذکور ہیں صریحاً یا اشتقاقاً سورۃ بقرہ میں

چھائیس نام۔ مُحِیْطٌ، قَدِیْدٌ، عَلِیْمٌ، حَکِیْمٌ، ثَوَّابٌ، بَصِیْرٌ، وَاسِعٌ،

بَدِیْعٌ، سَمِیْعٌ، کَافٍ، رَوْدٌ، شَکِیْدٌ، اِلْمٌ، وَاحِدٌ، عَفُوْرٌ، حَلِیْمٌ،

قَابِضٌ، بَاسِطٌ، اِلَّا ہُوَ، حَیُّ، قَیُّوْمٌ، حَلِیٌّ، عَظِیْمٌ، ذِیُّ، غَنًیٌّ،

حَمِیْدٌ اور آل عمران میں تین۔ قَائِمٌ، وَہَّابٌ، سَرِیْعٌ الْحِسَابِ اور نساء میں

سِتِّ رَقِیْبٌ، شَہِیْدٌ، غَافِرٌ، عَفُوْرٌ، مُقِیْتٌ، وَحِیْلٌ انعام میں پانچ

بَاطِنٌ، قَاسِرٌ، قَادِرٌ، لَطِیْفٌ، خَبِیْرٌ اعراف میں دو و محی و مُمِیْتٌ،

ام اعراف رکوع ۴، پ ۱۷۷ اعراف رکوع ۱۲ سے پ ۱۷۸ اعراف رکوع ۴

انفال میں دُو نِعْمَ النَّوْلِ، نِعْمَ النَّصِير۔ ہود میں سَائِ حَفِیْظٌ، تَرْیَبٌ،
 مُجِیْبٌ، قَوِیٌّ، مَجِیْدٌ، وَدُّودٌ، فَقَالُ لَمَّا یُوْدِیْدُ۔ رعد میں دُو کَبِیْرٌ، مُتَعَالِ
 ابراہیم میں ایک۔ مَنَّاٹ۔ حجر میں ایک خَلَّاقٌ۔ مریم میں دُو صَادِقٌ، ذَارِٹٌ،
 حج میں ایک بَاعِثٌ۔ مؤمنین میں ایک کَدِیْبٌ نور میں تین۔ نُورٌ، حَقٌّ، مُبِیْنٌ،
 فرقان میں ایک ہَادِی سبائیں دُو فَتَّاحٌ، شُکُودٌ۔ مومن میں چار غَافِرٌ، قَابِلِ
 التَّوْبِ، شَدِیْدُ الْعِقَابِ، ذُو الطَّوْلِ ذَارِیائیں تین رِزَّاقٌ، ذُو الْقُوَّةِ
 مَتِیْنٌ۔ طور میں ایک بَزٌ۔ قمر میں ایک مُقْتَدِرٌ۔ رُحْمٰن میں ایک ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْبَامِ
 مدین میں چار آوَلٌ، اٰخِرٌ، ظَاہِرٌ، بَاطِنٌ۔ حشر میں دس قُدُّوْسٌ، سَلَامٌ،
 مُؤْمِنٌ، مُہْمِیْمٌ، عَزِیْزٌ، جَبَّارٌ، مُتَحَبِّزٌ، خَالِقٌ، بَارِئٌ، مُصَوِّرٌ۔
 بروج میں دُو مُبْدِئٌ، مُعِیْدٌ۔ اخلاص میں دُو اَحَدٌ، صَمَدٌ۔ فاتح میں پانچ۔
 اَللّٰهُ، رَبُّ، رَحْمٰنٌ، رَحِیْمٌ، مِلْکٌ یَا مَلِکٌ۔ یہ سب مل کر بھی ننانوے
 ہوئے، اسمائے الہیہ کے آثار و خواص بے شمار ہیں ان میں سے کسی قدر مستقل طور پر
 انشاء اللہ تعالیٰ جداگانہ اسی اعمال قرآنی کے حصہ سوم میں لکھنے کا ارادہ ہے اس مقام
 میں بعض اسماء کے دو پار خواص مختصر لکھے جاتے ہیں۔

وقع بھوک | الصَّمَدُ، اس کی کثرت بھوک کو دفع کرتی ہے۔

پریشانی رو کرنا | اَلْفَعَّالِ، جو شخص مہم و غموم و افکار و سراسر میں مبتلا ہو اس
 کی کثرت اس کو مفید ہے۔

قبولیت دعا | اَلْسَمِیْعُ البَصِیْرُ، اس کی کثرت سے دعا قبول ہوتی ہے۔

تکلیف دور کرنے کے لئے | اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ اَلْقَوِیُّ اَلْقَائِدُ، مشکل کام کرنیوالوں

اور بوجھ کے اٹھانے والوں کو اس کی کثرت سے ماندگی نہیں ہوتی اور ان کو نگین پر
کندہ کرا کے پہنا جائے تو کبھی سستی نہ آئے۔

شفائے حمی مطبقہ | اگر اس نگینہ کو پانی میں غوطہ دے کر حمی مطبقہ والے کو پلایا جاوے
اس کو نفع ہو۔

ظالم کو ہلاک کرنے کے لئے | جو شخص سو مرتبہ ان اسماء کو بہ نیت ہلاکت ظالم کے
لکھے انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہلاک ہو۔

واسطے فالج و نزہ | اگر جو اس کے پتوں پر ان اسماء کو سوار لکھ کر ان پتوں کو زیتون
کے تیل میں جوش دے کر مفلوج یا نزہ والوں کی مالش کی جاوے انشاء اللہ تعالیٰ نفع ہو۔
برائے محبت اور ہیبت | اگر جمعرات کے روز اقل ساعت میں فولاد کی تختی پر ان
کو کندہ کر کے اپنے عمامہ میں رکھے لوگوں کی نظر میں اس کی محبت و ہیبت ہو۔

ہر کام میں آسانی کے لئے | الْوَحْنُ الرَّحِيمُ، اس کی کثرت سے ہر امر میں آسانی ہوتی ہے۔
ترقی حکومت و حل مشکلات | الْمِلْكُ الْعَزِيزُ، اس کی کثرت سے حکومت مد
تک قائم رہے سلطنت میں ترقی ہو۔

شہوت نفسانی پر غالب ہونا | نیز اس کی کثرت سے شہواتِ نفسانیہ مغلوب
رہیں۔

برائے عزت و انکساری | الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، اس کی کثرت سے
عزت بڑھتی ہے اور خود اپنے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے اور اگر کسی متکبر کے
روبرو اس کا ورد کریں تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔

برائے خوف | الْحَقِيقُ، سفر وغیرہ میں جہاں کہیں کسی قسم کا خوف ہو اس کے دور

کرنے کے لئے اس کی کثرت نافع ہے۔
شک تردود، دور کرنے کے واسطے | اَلْمُؤْمِنُ، اس سے شک اور تردود اور خوف
 زائل ہوتا ہے۔

شیاطین سے امن | اَلْمُهَيِّمُ، نگین پر پانچ بار کندہ کر کے پہننے سے ظالموں
 اور شیاطین انس و جن سے محفوظ رہے۔

برائے جملہ مشکلات و انکشافات وغیرہ | اَلنُّوْذُ الْبَاسِطُ، اگر کسی بات کا خدشہ
 میں دیکھنا منظور ہو تو بادلوں پر لیٹ کر ان کو بکثرت پڑھئے خواب میں اس کا
 انکشاف ہو جاوے گا اور اگر اسم نور کو جدا جدا حروف میں اس طرح ت و س پانچ
 بار لکھ کر جس شخص کو معذہ کی یا خفقاں قلب شکایت ہو پلائیں اللہ تعالیٰ اس کی
 شکایت دفع کریں اور اگر موضع درد میں رکھ دیں تو درد کو سکون ہو اور اگر کوئی
 بات سمجھ میں نہ آتی ہو یا راہ گم کر گیا ہو تو اس اسم کو دوسو چھپن بار خوش اعتقادی
 سے پڑھنے سے حقیقت امر منکشف ہو جاوے گی اور راستہ معلوم ہو جاوے گا۔
ترقی علم و تسکین شہوت و برکت زراعت وغیرہ | اَلْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ، اس سے
 علم و فن میں ترقی اور سہولت ہو اور اگر اس کے ساتھ عَظِيْمُ اور جتنے اسماء کے
 وسط میں حرف یا ہے سب کو لکھ کر نہار منہ دھو کر پئے تو شہوت جسمانیہ کو سکون ہو
 اور اگر ان اسماء کو ہل پر بادلوں پر لکھ کر جوتا جاوے تو کھیت میں بڑی برکت ہو اور
 اگر اس کو کدال یا پھاؤڑے پر لکھ کر کنواں کھودا جاوے تو پانی آسانی سے نکلتے۔
خوف دور کرنا | اَلدَّوْفُ الْمَتَانُ، خوف زدہ لوگوں کے واسطے اس کا
 ذکر بجزت کرنا موجب طمانیت قلب ہے۔

کشا دگی رزق و حاجت روائی | اَنْكِرِيْمُ الْوَهَّابُ ذُو الطَّوْلِ، جس کی روزی

تنگ ہو یا کوئی حاجت درپیش ہو اس کی کثرت سے فراخی و کما براری ہو۔

مصیبت کے وقت | اللَّطِيفُ، شائد کے وقت اس کی کثرت مفید ہے

برائے مقبولیت | اَوْدُدُودُ، سفید حریر کے کپڑے پر سینتیس بار لکھ کر پاس

رکھنے سے لوگوں کے دلوں میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے۔

ودام نعمت | الدَّائِمُ، نعمت کے دوام کے لئے مفید ہے۔

دفع خشکی دروسر و بلغم | ذُو الْقُوَّةِ، جمعہ کی دوسری ساعت میں اس کو چھ بار

اور غلبہ نسیان وغیرہ لکھ کر جس کو خشکی سے دردمس ہو اس کے باندھنے سے

نفع ہوتا ہے اور ساعت مذکور میں چاندی کے نیلین پر منقش کر کے منہ میں رکھنے سے

بلغم میں تخفیف ہوتی ہے اور غلبہ نسیان بھی اس سے دفع ہو جاتا ہے۔

انکشاف امر مخفی | اَلْهَادِي الْخَبِيرُ الْمُبِينُ، نصف شب کے وقت اس

کی کثرت کرے اور ہر سو بار کے بعد کہے اِهْدِنِي يٰاِهَادِي وَاخْبِرْنِي يٰاَخْبِرُوْ

بَيْنِي يٰيَا مُبِينُ اور جس چیز کا حال دریافت کرنا ہو اس کا نام لپیوے جب نیند

غالب ہو سو رہے انشاء اللہ تعالیٰ خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

فائدہ :- کم از کم ہر اسم کو اس کے عدد کے موافق پڑھے۔

تنبیہ :- اہلک ظالم کے لئے اگر پڑھے یا بد دعا کرے تو اس کے ظلم سے زیادہ

خواہش و قصد نہ کرے یعنی اس کے ظلم پر جس قدر شرعاً غصہ کا استحقاق ہے اس سے

تجاوز نہ کرے۔

برائے لرزہ قلب خیالات فاسدہ | اَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ مَّيْمَنِكَ

جس کو دس ادب اور خطرات اور حدیث نفس و خیالاتِ فاسدہ اور لرزہ قلب نے عاجز کر دیا ہو ان آیات کو گلاب و زعفران سے جمعہ کے روز طلوع شمس کے وقت سات پرچوں پر لکھ کر ہر روز ایک پرچہ نکل جائے اور اس پر ایک گھونٹ پانی کا لیوے انشاء اللہ دفع ہو جائے گا۔

قائدہ متعلقہ و سوسہ :- حدیث میں آیا ہے کہ ایسے وقت اعوذ باللہ پڑھے (رواہ الشیخان) اور اس امر میں سوچنا چھوڑ دے ایک حدیث میں ہے کہ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ کہے ایک حدیث میں تین بار اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کہنا آیا ہے (رواہ ابن ابی شیبہ) ایک حدیث میں اعوذ باللہ پڑھ کر بائیس جانب تین مرتبہ تھسکارنا آیا ہے (رواہ مسلم) ایک حدیث میں هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ پڑھنا آیا ہے اور وارد ہوا ہے کہ اس سے کسی کو نجات نہیں ہوئی اس کا غم نہ چاہئے (رواہ ابو داؤد و ابن عباس) بعض علماء سے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی کثرت منقول ہے بعض نے مطلق ذکر کی کثرت کو مفید فرمایا ہے ابو سلیمان درانی نے عجیب تدبیر بتلائی ہے کہ جب دسوسہ نہ ڈالے گا اور مغوم ہونے سے اور پیچھے پڑے گا۔ بعض علماء نے تسکین کے لئے کہا ہے کہ چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے۔

دفع قساوت قلب | اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ سَكَتُوْا كَلُوْنَ سَمَكٌ جس شخص کے دل میں قساوت پیدا ہو جائے اور غلط نصیحت کا اثر نہ ہوتا ہو اور مسائل کو دینے کی اور نیک کاموں کی توفیق و رغبت نہ رہی ہو

لے پئے حدید ضرور لے پئے انفال رکوع ۱

تو خالص جو کی ٹکیہ بے نمک طلوع آفتاب کے قبل پکا کر اس پر یہ آیت سات مرتبہ
تو تراشیدہ قلم سے لکھے اور اس روز روزہ رکھے اور شام کو اس ٹکیہ سے افطار
کرے انشاء اللہ تعالیٰ قلب میں رقت پیدا ہو۔

برائے حفاظت | وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا سَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک
رمضان کی ستائیسویں تاریخ کو ایک پرچہ پر یہ آیت لکھ کر انگوٹھی کے نیچے رکھ
لے تو ہمیشہ محفوظ شاداں و فرحان منصور و مظفر رہے۔

تالیف قلوب و عزت کے لئے | وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ سَ الْعَزِيزُ
حکیم تک جو شخص رمضان کے اوّل جمعہ میں درمیان ظہر و عصر کے اس آیت کو
یا وضو صوف یا حریر کے تین رنگ یعنی سبز، زرد و سرخ ٹکڑوں پر لکھ کر وہ ٹکڑے
ٹوپی کی گوت میں لگا کر احتیاط سے رکھ پھوڑے ضرورت کے وقت پہن کر جہاں
جائے عزت و ہیبت و محبت سے لوگ پیش آ دیں اور تہمتوں سے بری ہو اور سب
حالتیں درست رہیں مگر حریر کی ٹوپی پہننا شرعاً درست نہیں۔

برائے اندیشہ | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَ مَعَ الصَّابِرِينَ تک
بوجہ اٹھانے والوں اور مشکل کاموں کے کرنے والوں کو اس سے تخفیف و آسانی ہوتی
ہے اور اگر اس آیت کو سات روز تک پڑھے جمعہ کی عصر سے شروع کر کے اگلے
جمعہ کی نماز جمعہ پر ختم کرے پانچوں نمازوں کے بعد اور کاموں سے فارغ ہونے کے
بعد پڑھا کرے تو سب اندیشے دفع ہو جائیں اور تخفیف و آسانی ہر قسم کی حاصل ہو
واسطے بخار | حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بخار کے لئے یہ لکھ کر مریض کو بندھواتے تھے

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. أَلَسَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا. أَن تَبْذُلُوا خَشِفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. وَإِنْ يَسْأَلْكَ
اللَّهُ بِشَيْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ بِشَيْءٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

تسخیر قلب | **یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا سَ وَكُذِّبَ الشَّيْطَانُ** کہ اب گیند
کے آپ نارسیدہ برتن میں زعفران و گلاب سے اس آیت کو لکھ کر عود کی دھون اڑے
کر روغن چنبیلی خالص سے اس کو دھو کر سبزشیشی میں اس کو اٹھا رکھے جب کسی کے
پاس جانے کی ضرورت ہو تھوڑا روغن چنبیلی اپنے دونوں ابروؤں پر مل جاوے
انشاء اللہ تعالیٰ مقبولیت و محبت اور عزت و جہاہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔
برائے عزت و جہاہ | ہرن کی جھلی پر زعفران و گلاب سے لکھ کر جو زلطیب سے
دھونی دے جو شخص دامنے باز و پر باندھے اس کو بھی یہی بات حاصل ہو۔

چور اور بھاگے ہوئے کو بلاتے کے لئے | **ذَلَّوْا رَادُّوْا الْخُرُوجَ** مع القاعین
تک۔ یہ آیتیں سارق و گرنختہ کے لئے ہیں، کتان کے دھلے ہوئے کپڑے کے قوارہ
پر شروع ماہ میں یہ آیت لکھی جاوے اور اس شخص کا نام مع نام والدہ کے لکھیں اور
جس جگہ کوئی نہ دیکھتا ہو دہاں جا کر ایک میخ قوارہ کے اوپر ٹھوک دیں اور اس کو مٹی
سے چھپادیں وہ چور یا گرنختہ باذن الہی واپس آجاوے گا۔

قضائے حاجت از حاکم مہات دنیا و آخرت وغیرہ | **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ**

۱۰ پٹ نسا رکوع ۵ ۱۱ پٹ انفال رکوع ۸ ۱۲ پٹ وغان رکوع ۱۱ ۱۳ پٹ یونس آخری رکوع

۱۴ پٹ توبہ رکوع ۵ ۱۵ پٹ توبہ رکوع ۸ ۱۶ پٹ توبہ آخری رکوع

سے اَلْعَظِيمُ تک حضرت ابوذر داء سے منقول ہے کہ جو شخص اس آیت کو ہر روز تلو بار پڑھے تمام مہمات دنیا و آخرت کے لئے اس کو کافی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص ہدم و غرق و حرق و ضرب آہنی سے نہ مرے گا اور لیث بن سعد سے منقول ہے کہ کسی شخص کی ران میں ضرب آگئی تھی جس سے وہ ٹوٹ گئی تھی کوئی شخص اس کے پاس خواب میں آیا اور کہا کہ جس موقع پر درو ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھو پس اس کی ران ابھی ہو گئی، اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو لکھ کر باندھ کر جس حاکم کے دربار میں کام کے لئے جاوے وہ اس کی حاجت بحکم الہی پوری کرے۔

برائے شناخت چور | سورہ یونس تائبے کے طشت پر لکھ کر آب بستر سے دھو کر اس میں آٹا گوندھے اور اس میں ان سب لوگوں کا نام پڑھ کر دم کر دے جن پر چور کی شبہ ہو، اور اس کی روٹی پکا کر ان لوگوں کے شمار کے موافق اس کے ٹکڑے کر کے ان لوگوں کو کھلاوے۔ چور اس کو نہ کھا سکے گا، مگر اس عمل پر یقین کرنا جائز نہیں البتہ اس قرآن کے بعد اپنے طور پر سراغ لگاوے محض اس عمل پر اعتماد کر کے بدگمانی یا تہمت یا تشدد کرنا درست نہیں۔

جاہ و عزت و خیرات | سورہ یونس ابتدا سے اَفْلَا تَذَكَّرُونَ تک جو شخص چاہے کہ لوگ میرے مطیع و مسخر ہو جائیں تو شعبان کے مہینے میں ایام بیض کے روزے رکھے آخری روزہ سرکہ و ساگ اور جو کی روٹی اور خرما سے افطار کرے اور مغرب سے عشاء تک ذکر اللہ اور درود شریف میں مشغول رہے اور عشاء پر طہ کر بھی تسبیح و تقدیس میں جب تک چاہے مشغول رہے پھر آیتیں آب آس اور زعفران سے ایک کاغذ پر لکھ کر سر

لے پٹ یونس پوری سورت لے پٹ یونس شروع سے دو رکوع تک

کے نیچے رکھ کر سورہ صبح کو نماز پڑھ کر اس پر چہ کو لے کر جس کے پاس جائے گا اس کی قدر و منزلت کرے گا اور جو بات کہے گا درست ہوگی۔

برائے درد و شکم و خفقان | وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّمُّ يَعْمَلُونَ تَكْمِلاً
کے کورے پاک برتن پر اس آیت کو سیاہی سے لکھ کر اور برتن کو روغن زیتون سے بھر کر اس سے روف دھو کر اس روغن کو ہلکی آپخ یا گرم راکھ پر گرم کر کے اس کی مالش کرنے سے پنڈلیوں اور پسلی کا درد جاتا رہتا ہے۔

آسانی ولادت و دروگوش | قُلْ مَنْ يَدُّكُمْ مِّنَ السَّيِّئَاتِ أَعَدَّ
دکشا دگی رزق وغیرہ | تَتَّقُونَ تَمَكٌ - یہ آیت تسہیل ولادت اور دروگوش اور آسانی رزق کے لئے ہے کدوئے شیریں کے پوست پر سیاہی سے لکھ کر دروزہ دالی کے داہنے بازو پر باندھ دینے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے اور قلعی دانتا بنے کی طشتری پر عرق گندنا سے لکھ کر صاف شہد سے دھو کر آگ پر پکا کر جس جگہ درد ہو تبین قطرے چھوڑ دیں انشاء اللہ تعالیٰ نفع ہوا اور جو کا نذر لکھ کر نیلے کپڑے میں تھوید بنا کر داہنے بازو پر باندھے اسباب روزی کے اس کے لئے آسان ہوگا۔
برائے خفقان و اختلاج وغیرہ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُّؤْخِطَةٌ
يَجْمَعُونَ تَمَكٌ - یہ آیتیں تمام اقسام درد و شکم کے لئے مفید ہیں جس شخص نے کبھی صحبت نہ کی ہو اس سے کاغذ لے کر سیاہی سے لکھ کر کسی سبز پھل کے عرق سے دھو کر کسی قدر اس میں مسری انشاؤں کر کے مریض کو پلایا جاوے اور خفقان اور اختلاج قلب کو بھی نافع ہے۔

دفعِ سحر | اِنَّمَا جَاءَ السَّحَرَةُ سَعَى عَمَلِ الْمُشْرِكِينَ | تک - سخت جادو کے دفع کرنے کے لئے نافع ہے ایک گھڑا پانی کالے ایسی جگہ سے جہاں برسنے کے وقت کسی کی نظر نہ پڑی ہو۔ ایک گھڑا بارش کے پانی کالے جس سے کوئی پانی نہ بھرتا ہو پھر جمعہ کے روز ایسے سات درختوں کے سات پتے لے جس کا پھل نہ کھایا جاتا ہو۔ پھر دونوں پانی ملا کر اس میں ساتوں پتے ڈال دے پھر ان آیتوں کو لکھ کر اس پانی سے دھو کر مسح کو کنارے دریا پر لے جا کر پانی میں اس کو کھڑا کر کے رات کے وقت اس پانی سے اس کو غسل دیں انشاء اللہ تعالیٰ باطل ہو جائے گا۔

برائے شفاءِ امراضِ ہر قسم | وَادْعَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَآخِيهِ اَنْ تَبَوَّآ سَعَى الْمُؤْمِنِيْنَ | اور وَ اِنَّ يَمْسَسَنَّكَ اللّٰهُ سے الرَّحِيْمُ | تک - بھری گئے کر کے پر لوہے کی سوئی سے اس آیت کو منقش کر کے آبِ شیریں سے جو رات کے وقت نہر سے لیا گیا ہو گھول کر مرینس کو قریب طلوع فجر کے پلایا جاوے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امراض سے شفاء ہو۔

قوت و غلبہ و شمنال وغیرہ | سورہ ہود پارہ یغزرون وامن وابتہ ہرن کی جھلی پر لکھ کر جو شخص اپنے پاس رکھے اسے قوت و نصرت عطا ہو اگر تنہا آدمیوں سے مقابلہ ہو سب پر ہیبت غالب آجائے اور اس کے خلاف کوئی گفتگو اس سے نہ کر سکے اور اس کو زعفران سے لکھ کر تین روز صبح و شام پی لیوے قلب قوی ہو جائے۔ اور کسی کے مقابلہ سے اس کو خوف نہ ہو۔

کشاوگی ذہن و علم حافطہ | اَللّٰہُ کِتَابٌ سے قَدِ یُرِیْہِ | تک - قلفاش کے سبز پتے

لے پونس رکوع ۸ پ ۷ لے پونس رکوع ۹ لے پونس آخری رکوع ۱۰ لے پونس شروع

۱۰ پاپ ہود رکوع ۱۱ پاپ زمر رکوع ۱۲ پاپ ہود رکوع ۱۳ پاپ یوسف رکوع ۱۴

آدھے ان میں روزہ رکھے اور شب جمعہ میں بستر پر لیٹتے وقت یہ سورۃ پڑھے پھر جمعہ کے دن مابین ظہر اور عصر کے اس سورت کو لکھے پھر انظار کر کے اس سورت کو پڑھے پھر عشاء پڑھ کر اس سورت کو پڑھے پھر بستر پر جا کر کے اس سورت کو پڑھے اور سو بار لا الہ الا اللہ کہے اور سو بار اللہ اکبر اور سو بار الحمد للہ اور سو بار سبحان اللہ اور سو بار استغفار اور سو بار درود شریف پڑھے پھر سو رہے جب صبح ہو گھر سے نکل کر لکھی ہوئی سورت کو تعویذ بنا کر باندھ لیوے اور پختہ عہد اور نیت کرے کہ کسی پر کبھی ظلم نہ کروں گا اور اپنے حق سے زیادتی نہ کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتہ میں یا کچھ زیادہ میں برسرِ روزگار ہو جاوے گا جو شخص پڑھتا نہ جانتا ہو وہ لکھے ہوئے کو سرتلے رکھ لے باقی لا الہ الا اللہ بدستور سابق کہے۔

آنکھوں کے جملہ امراض کے لئے قَالُوا تَأْتِيهِمْ لَقَدْ أَتَوْكَ سے أَجْمَعِينَ تک یہ آیت آنکھ کے تمام درد تکلیف اور آنکھ کی سفیدی کے واسطے جن کے موالجہ سے اطباء عاجز آگئے ہوں نافع ہے، سرمہ اصفہانی ایک جزو ایلا آدھا جزو مونگا آدھا جزو زعفران ما میران سمندر جھاگ ناگر موتہ آدھا جزو خریف کی اول بارش کا پانی اور نہر چشمہ کا پانی جمعرات کے روز کا نون اول کے مہیتے میں قبل طلوع آفتاب کے لیا گیا ہو اور ایک نسخہ میں کا نون ثانی ہے پھر یہ سب دوائیں علیہ السلام پیس کر اور سب کو ملا کر پھر درخت سبز کے پانی میں پیسے اور خشک کرے پھر ان کو یارین خریف کے پانی میں پیس کر خشک کرے پھر پرسی بار آب کا نون اول بالائی کے ساتھ پیسے پھر چوتھی بار شہد میں جس کو آگ نہ لگی ہو اور سرکہ میں پیسے جب خشک ہو جائے

ان آیات کو شیشہ کے برتن میں زعفران سے لکھ کر اور آب کانون ثانی سے دھو کر پھر سب کو اس پانی میں پیس کر پانچویں بار خشک کرے جب خشک ہو جائے ہر مرنے چشم کے لئے اس کو استعمال کرے۔

قید سے رہائی | قَدْ دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَدْمَىٰ إِلَيْنَا يُوسُفُ سَے الْحَكِيمُ
تک اگر کوئی شخص ظلماً قید ہو گیا ہو ان آیتوں کو لکھ کر دھبے بازو پر باندھے اور کثرت سے پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ رہائی پاوے۔

ظالم حاکم کی معزولی وغیرہ | سُورَةُ الرَّعْدِ اس کو کسی بڑی نئی رکابی پر شب تاریک جس میں رعد و برق ہو لکھ کر آب باران سے دھو کر شب تاریک میں اس پانی کو حاکم ظالم کے دروازے پر پھینک دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی روز معزول ہو جائیگا امام کا قول ہے کہ جو شخص اس کو عشاء کے بعد اندھیری رات میں آگ کی روشنی میں لکھ کر اسی وقت بادشاہ ظالم یا حاکم کے دروازہ پر ڈال آوے اس کی رعایا اور لشکر اس سے برگشتہ ہو جائیں اور کوئی اس کا کہنا نہ مانے اور اس کا دل خوب تنگ ہو۔
آبادی و ترقی مکان یا | التَّوْرَةُ سَے يَتَفَكَّرُونَ تک۔ باغات و مکانات و دکان و باغ وغیرہ نو | اطلاق دو مکانات کی آبادی و تجارت کی ترقی کے لئے اس کو زیتون کے چار پتوں پر لکھ کر مکان یا دکان یا باغ کے چاروں گوشوں میں دفن کر دے بہت ترقی و آبادی ہو۔

برائے دہینہ و امر مقصود وغیرہ | اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ سَے اَلثَّقَالِ تک
جو شخص کسی پرشیدہ امر کو دریافت کرنا چاہے مثلاً معاملہ کے شکم میں کیا ہے یا

ظالم دشمن کو ہلاک کرنا | وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَصَرُونَ | وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَصَرُونَ | وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَصَرُونَ |

نہ کرے یعنی جس قدر نقصان پہنچا نا اس کو شرعاً جائز ہو اس سے زیادہ بددعا نہ کرے
انشاء اللہ تعالیٰ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔

بچوں کا روزنا و نظر بد و ڈرنا وغیرہ | سورۃ ابراہیم: سفید حریر کے ٹکڑے اس کو باؤ تو
لکھ کر لٹ کے کے باندھ دے تو روزنا اور ڈرنا اور نظر بد سب دفع ہو جاوے اور دودھ
چھوڑا نا آسان ہو۔

برائے درد ہاتھ و پیر و نظر بد | دَمَائِنَا اِنْ لَا نَتَوَكَّلْ سِے اَلْمُتَوَكِّلُوْنَ تک
جس کے ہاتھ پیروں میں درد ہو یا اس کو نظر ہو اس کو لکھ کر قویٰ بنا کر باندھ دے
انشاء اللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا۔

برائے نظر بد | جس کو کسی آدمی یا جن کی نظر ہو تو ایک گھڑا کنوئیں سے بھر کر یہ
آیت پڑھ کر اس پر دم کرے اور جس کو نظر لگی ہو اس کو شب کے وقت چوراہر پر
لے جا کر اس پانی سے غسل کر دے تین شب تک اسی طرح کرے انشاء اللہ تعالیٰ
نظر بد جاتی رہے۔

دفعِ پستو | پستوؤں کے دفع کرنے کے لئے پانی پر سات مرتبہ یوں کہے کہ اے
پستوؤں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو ہم کو مت ستاؤ اور خواب گاہ کے گرد اگر دو
اس پانی کو پھیر کر دے رات بھر محفوظ رہے گا۔

برائے موذی جانور | وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سِے غُلَبِيْنُ تک جس کے کھیت
میں کیڑا یا ٹڈی یا چوہا لگ گیا ہو تو زیتون کے چار تختوں پر سیاہی سے ان آیتوں
کو بدھ کی صبح کے وقت قبل طلوع آفتاب لکھ کر ایک ایک گوشہ میں ایک ایک تختی گاڑ دو

لے پٹا سورۃ ابراہیم مکمل ۵ پٹا ابراہیم رکوع ۲ لے پٹا ابراہیم رکوع ۲

اور کاڑتے وقت ان آیتوں کو تین بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ سب موذی جانور دفع ہو جائیں گے۔
ظالموں کی تباہی و بربادی | وَمَثَلُ الْيَوْمَانِ فِي الْحَيَاةِ سَعْدٍ تَكُنْ ظَالِمٌ فِي خَلْقِهِ
 ویرانی اور تباہی کے لئے بدھ کے روز مٹی کی ایک تختی مربع قبل طلوع آفتاب تیار کر کے اس
 کو سایہ میں خشک کر کے پھر اگلے بدھ کو اس پر یہ آیت چوب برنوب کے قلم سے لکھے پھر
 اس تختی کو باریکہ پس کر ظالم کے گھر یا کھیت یا باغ میں چھڑک دے اور ہفتہ کے روز
 ذبیحہ کے ربوہ چمڑہ پر نزل ماہ میں لکھ کر وہ چمڑہ اس کے پینے کے پانی میں ڈال دے
 وہ بیمار ہو جائے اور ہلاک ہو جائے لیکن یہ مکر یا دوا لایا جاتا ہے کہ سزائے شرعی سے تجاوز جائز نہیں۔
تمام آفات سے حفاظت | اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ سَعْدًا تَكُنْ
 اس کو صبح و شام اور سونے کے وقت یا کہیں جانے کے وقت پڑھے تمام آفات
 بحری و بری سے محفوظ رہے اور مال و کھیت و مواشی وغیرہ میں برکت ہو۔

عورت کا دودھ بڑھانے کے لئے | سَوْرَةُ الْجُرَّارِ دوا ابروی نفسی جو شخص اس
 کو زعفران سے لکھ کر کسی عورت کو پلا دے اس کا دودھ بڑھ جائے۔
برائے برکت وغیرہ | اور جو شخص اس کو کھجور جیب میں رکھے اس کی کمائی میں برکت
 ہو اور معاملات میں کوئی شخص اس کو امتیاز سے عدول اور خلاف نہ کرے۔

برائے حفاظت جائز مال | اِنَّا نَحْنُ مَزَلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لِعَٰقِبُونَ
 چاندی کے ملے کے پتر پر اس کو تھوکر شہب معہ کو یہ آیت چالیس بار اس پر پڑھے،
 پھر اس کو نگین انگشتری کے نیچے رکھ کر وہ انگشتری سین لے اس کا مال و جان تمام آفات
 سے محفوظ رہے اور اگر اس انگشتری سے موم خام پر نقش کر کے جس درد کو دھوئی دی جائے

لے پٹا ابراہیم رکھ دے پٹا ابراہیم رکھ دے پٹا حجر مکمل لکھ پٹا حجر رکھ دے

وہ اچھا ہو جاوے

برائے جاہ و قبولِ عام | وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ سَیِّئَاتٍ (جہ: ۱۶)

نگین پرانندہ کر کے یا ہرن کی جھلی پر لکھ کر پہننے سے جاہ و قبولِ عام کے لئے از بس ٹوڑ ہے۔

برکت رزق و زراعت و باغ | اِذَا الذُّرُّ مَدَدْنَا هَا سَیِّئَاتٍ (جہ: ۱۶)

(جہ: ۱۶) جو شخص برکت اور وسعتِ باغ اور کھیت کی شادابی چاہے اس آیت کو نکلادی کے تختہ

پر لکھ کر اپنی دوکان میں میخ سے لگا دے اور باغ یا کھیت میں دفن کر دے مراد حاصل ہو۔

تباہی باغ | سورۃ النحل (پتہ دبھا) اگر اس کو لکھ کر کسی باغ میں رکھ دے تمام درختوں

کا پھل جاتا رہے اور کسی مجمع میں رکھ دے سب پرانندہ اور تباہ ہو جائیں اس وجہ سے

بحرِ ظالم کے دوسرے کے لئے عیال کرنا جائز نہیں اور اس میں بھی حدِ شرعی کی رعایت واجب ہے۔

نشانہ خطانہ ہوتا | سورۃ بنی اسرائیل (پتہ سبحان الذی) حریرِ سفید کے ٹکڑے پر لکھ کر

کمان پر لپیٹ کر سی دیوئیں تو کوئی تیر خطانہ ہو۔

زبان کا کھلنا | اگر یہ سورۃ زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر اس پتے کو پلاوے

جس کی زبان نہ چلتی ہو تو زبان چلنے لگے۔

خوف زائل کرنا | اِذَا اقْدَاتِ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ سَیِّئَاتٍ (جہ: ۱۶)

(بنی اسرائیل: ۲۵، ۲۶) کسی خوف زدہ پر جو خیالاتِ فاسدہ میں گرفتار ہو پڑے کہ دمِ کوفی

جائے تو اس کا خوف زائل ہو جاوے۔

دفعِ آسیب | کوئی بھوت پلید کسی کے سر ہو گیا تو نیلے لٹمینیہ پر یا کاغذ پر لکھ کر اس

کے اس کے بازو پر باندھ دی جاوے، وہ دفعِ ہر جادو سے

جملہ امراض کے لئے | وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سَیِّئَاتٍ (جہ: ۱۶)

besturdubooks.wordpress.com

دفعِ غم و خیالاتِ قاسدہ | وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا سَئِئًا يَلَّا يَك
 (بنی اسرائیل ۱۰۵، ۱۰۶) جو شخص غم و الم و تنگیِ دل اور خواب پریشاں اور وساوسِ خیالاتِ
 قاسدہ میں مبتلا ہو وہ شخص دس روز سے متواتر رکھے اور کچھ متفرق رکھے اور اپنی دستکاری
 کی حلال روزی سے افطار کرے اور عشاء کے بعد ایک صراحی پانی لے کر یہ آیت اس پر
 دس بار پڑھ کر سورا کرے پھر خواب سے بیدار ہو کر تین گھونٹ پیوے اور پھر دس بار یہ
 آیت پڑھے اسی طرح چار دفعہ کرے پھر بقیہ کو سحر کے وقت پئے اور ایک بار اس پر
 یہ آیت پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ سب شکایتیں دفع ہو جائیں گی۔

برائے محتاجی و قرضہ وغیرہ | سورہ کہف (پا سبحان اللہ)، اس کو لکھ کر ایک
بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضہ سے بے خوف رہے اور اس کے گھر
والوں کو کوئی آزار نہ دے سکے اور جو ناج کی کوٹھی میں رکھ دے سب خطروں محفوظ رہے
ظالم دشمن کی تباہی کے لئے | دَیْنِیْذَ الدِّیْنِ سے جُوْذُ اَمَک (کہتے ہیں: ہمتاں)
دشمن ظالم کی تباہی اور خرابی کے لئے محرم کے اول سنیچر کے روز آفتاب نکلنے کے قبل سات
جگہوں سے ایک ایک جگہ مٹھی خاک لے مسجد غیر آباد بقعہ غیر آباد مکان خالی حمام غیر آباد پڑاؤ
غیر آباد جس مکان میں نماز جنازہ ہوا چوراہہ۔ اور مٹھی پر سات سات مرتبہ یہ آیتیں پڑھے
اور اپنے مطلب کا تصور رکھے پھر سب خاکیں ملا کر اس کے گھر یا یاغ یا شہر میں ڈال دے
سات ہفتہ تک اسی طرح کرے، اذن شرعی کی یہاں بھی حاجت ہے۔

برائے ترقی و رخت و کھل | وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ سَيُفْرَا تَكْفِدًا مِّنْهُمَا (۳۲)

جو شخص یہ آیتیں جمعہ کے روز چوتھی ساعت میں مٹی کی بارہ ٹھیکریوں پر تانبے کے قلم سے لکھ کر برگ صفت اور تخم بکائن کی دھونی دے کر وہ ٹھیکریاں کنوئیں میں ڈال دے جس درخت کو اس کا پانی دیا جائے گا خیر و برکت زیادہ ہوگی۔

مودی دشمن کو تباہ کرنے کے لئے [قَالَ لَنْ صَاحِبُهُ سَاحِدًا تَكْدُ كَهْفِي] جو دشمن مودی کو تباہ کرنا چاہے بیچ شبہ اور جمعہ کو روزہ رکھے جب شبہ کی شب نصف ہو ایک پرانی کنگھی پر جو کوڑے پر سے اٹھائی گئی ہو اس آیت کو لکھے اور کسی راہب کے کرتے کے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے رہنے کی جگہ دفن کرے۔

برائے خیر و برکت و نیک خواب وغیرہ [سورہ مریم (پ) قَالَ اَللّٰهُ اَقْلَمُ] اس کو لکھ کر شیشہ کے گلاس میں رکھ کر اپنے گھر میں رکھنے سے خیر و برکت زیادہ ہو اور خوشی کے خواب نظر آویں اور جو شخص اس کے پاس سووے وہ بھی اچھے خواب دیکھے اور جو لکھ کر مکان کی دیوار میں لگا دے سب آفات سے حفاظت رہے اور جو خوف زدہ پی لیموے تو خوف جاتا رہے۔

برائے قرار حمل [وَاِنِّيْ خِفْتُ الْوَالِيَّ سَ حَيًّا تَكْ دَمِيْهِ : ۵ تا ۱۱] جس عورت کو حمل نہ رہتا ہو میاں بیوی جمعہ کے روز روزہ رکھیں اور شکر اور بادام اور روٹی سے روزہ افطار کریں اور پانی بالکل نہ پیویں اور یہ آیتیں شیشہ کے جام پر اس شہد سے جس کو آگ نہ پہنچی ہو لکھ کر آب نمیریں پاک سے دھو کر سفید نخود و سوچو بیس دانے لے کر اور ہروانہ پر یہ آیتیں پڑھ کر اس پانی کو منڈیا میں ڈال کر وہ نخود اس میں ڈال دیں اور خوب تیز آبیچ کر دیں پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سورہ مریم پڑھے جب نخود خوب پک جائیں پانی سے نکال لیں اور اس میں تھوڑا آب انگوڑا صاف کر کے آدھا آدھا دے

دو نوں میاں بیوی بیٹیں اور تھوڑی دیر سو رہیں پھر اٹھ کر مباشرت کریں انشاء اللہ
تعالیٰ اسی روز محل قرار پائے گا اور اگر تین شب تک اسی طرح غذا کھانے سے پہلے
ایسا کریں تو اولاد بہت اچھی ہو۔

برائے درخت خرما وغیرہ | وَهْتَنِي إِلَيْكَ سَإِيَّاتُكَ رَمِيْدَةٌ | درخت
خرما کو جلدی اور عمدہ پھل آنے کے لئے اور اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھنے کے لئے کچور
کے تین پٹھے مختلف رنگ کے زرد و سبز و سرخ لے کر نئی قلم سے ان پر یہ آیتیں لکھ کر
ایک ایک پٹھا اس کی ایک ایک شاخ میں باندھ دے، خوب پھل آوے۔

رتبہ و شان بڑھانے کے لئے | وَادْكُذِّفِي الْكِتَابِ اِدْنِیْ سَإِيَّاتُكَ رَمِيْدَةٌ |
رتبہ اور شان بڑھانے کے لئے حریر زرد کے ٹکڑے پر اس زعفران سے
جو شہر میں حل کیا گیا ہو تعویذ بنالیں اور موم کو کندہ میں گوندھ کر اس سے تعویذ کو دھوئی
دیں اور باندھ لیں ہر جگہ عزت و آبرو ہو۔

عزت و آبرو بڑھانے کے لئے | سُوْرَةُ طٰهٍ (پَا قَالِ الْمَ اَقْلٰ لَكَ) اس کو لکھ کر
حریر سبز کے کپڑے میں لپیٹ کر پاس رکھے اگر نکاح کا پیغام بھیجے گا میاں بی ہو اگر دو
شخصوں یا دو لشکروں میں صلح کرانا چاہے انکار نہ کریں اگر اس کو پی لے تو بادشاہ کے
مطلب حاصل ہو اور جس عورت کی شادی نہ ہوتی ہو اس کو اس کے پانی سے غسل دیں تو
تو نکاح آسان ہو۔

جاہ قبولیت کے لئے | طٰهٍ سَإِيَّاتُكَ رَمِيْدَةٌ | طٰهٍ : اَتَمَّ (پَا)
سنگ مرمر یا چینی یا بلور کے برتن میں مشک و کافور و گلاب سے لکھ کر روغن بکائن
سے دھو کر اس میں تھوڑا عطر و کافور اضافہ کر کے خوشبودار بنالیں پیشانی اور ابروؤں

پر مل کر جس کے سامنے ہو گا وہ اس کو سوت و آبرو کرے گا۔

برائے پھوڑا دھنسی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ سے اَمْتًا تَك (لُحْدًا) دیکھیں اور زخموں کے لئے اور جو پھوڑا پھنسی غیرہ بدن میں ہو جائے اس کو ایک پاک برتن میں فارسی سیاہی سے لکھ کر روغن بنفشہ سے دھو کر اس جگہ ملے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو۔

برائے شادی و بیماری لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ سے يَلْتَقُوا تک رُحْلًا (۱۳۱، ۱۳۲) اس کو لکھ کر باندھے تو اگر بے شادی ہو شادی ہو جائے۔ نسباًن ہو تو زائل ہو مرنے سے تو شفا ہو فقیر ہے تو توبہ کر۔

دفع بد خوابی و نیند سورة الانبياء جس کی میند بیماری یا کسی خوف و ہراس کی وجہ سے جاتی رہے، یہ سورہ ہرن کی مجلس پر لکھ کر اس کی کمر پر باندھ دیں خوب نیند آدے کر بدون قویذ کھولے آنکھ نہ کھلے۔

ظالم کو تباہ کرنے کے لئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ سے الْظَّالِمِينَ تک (انبیاء: ۲۵ تا ۲۹) متکبر ظالم کے تباہ کرنے کے لئے چار قبروں کی مٹی لے ایک مسلمان کی دوسری یوحی کی تیسری نصرانی کی چوتھی مجوسی کی اور ایک کسی متکبر کی پرانی قبر کی اور ایک کسی ویران گھر کی اور ایک کسی وقف مہدم مہر کی یہ ساتوں مٹیاں لے کر برتن پر یہ ایت سات سات بار پڑھ کر کسی مہینہ کی آخر، بدھ یڑاہ مٹیں ملا کر اس شخص کے گھر میں اوپر سے اس دے پھر تماشا دیکھے۔

حفاظت حمل و بچہ وَسَيُحْمِلُهُ سے وَأَجْعَلِي تک (انبیاء: ۱۰ تا ۱۳) حفاظت حمل اور بچہ صحیح و سالم پیدا ہونے کے لئے یہ آیتیں لکھ کر شروع حمل میں پائیس روز تک حاملہ عورت کے باندھ دیں پھر کھول کر نویں مہینے پھر باندھ دیں پھر بعد پیدائش

وہ تعویذ کھول کر بچہ کے باندھ دیں۔

آسانی ولادت | اَوْلَٰهُمَّ يَزَادُ الدِّينَ كَفَرُوْا سَيُّوْمُ مَنُوْنٍ تَمَك (انبیاء: ۳۰) جو عورت

در درجہ میں مبتلا ہو اس کے شکم یا کمر پر دم کرے یا لکھ کر باندھ دے تو ولادت آسانی ہو۔

در درجہ بخار کے لئے | اِنَّ الدِّينَ سَيُّوْمُ مَنُوْنٍ تَمَك (انبیاء: ۳۱) بخار اور تمام

امراض اور دردوں کے لئے ایک پاک برتن میں سیاہی سے لکھ کر آب چاہ سے جس پر

دھوپ نہ آتی ہو دھو کر تین گھونٹ مرہض کو پلا دے اور درد کی شدت کے وقت بقیہ

اس کی کمر پر چھڑک دے تین دن اسی طرح کرے یا روغن بابونہ سے دھو کر درد کمر اور

زانوں کے واسطے مالش کرے۔

ظالم حاکم کی خانہ ویرانی | سورۃ الحج (۱) اَقْتَتَبَ لِلنَّاسِ (اس کو تمام وکمال لکھ کر اگر

ظالم کے جہاز میں ڈال دے تب بھی میں مبتلا ہو اگر ظالم حاکم کے محل قیام میں ڈال دے تو

وہاں سے دفع ہو۔

ظالم کی ہلاکت کے لئے | ثَمَّ اَخَذْتُ مَثَلُ فَاكِفَ كَانَ نِيْكَوْا سَيُّوْمُ مَنُوْنٍ تَمَك (حج: ۴۰ تا ۴۱) ظالم کی ہلاکی اور ویرانی کے لئے درخت عشار کے سات پتے اس طرح

لے کر ہفتہ سے شروع کرے اور ایک پتہ ہر روز قبل طلوع آفتاب بیا کرے اور آیت اس

کے دونوں طرف لکھ کر اس کو سایہ میں جہاں دھوپ نہ آتی ہو خشک کرے پھر سب پتوں کو

باریک کوٹے اور کوٹتے وقت اس شخص کا نام لیتا رہے اور اس کے گھر میں ڈال دے۔

دیگر :- بِاَيُّهَا النَّاسُ سَيُّوْمُ مَنُوْنٍ تَمَك (حج: ۵۳ تا ۵۴) یہ بھی اسی مطلب کے لئے ہے درخت

خرنوب کی ٹکڑی خراہ کی ہوئی لے اور ہفتہ کے روز پانی میں قدرے شکر گھول کر اس

پانی سے یہ آیت اس ٹکڑی پر قبل طلوع آفتاب لکھے اور ویران کنوئیں کے پانی سے جس کا

کوئی مالک معروف نہ ہو لکھ کر اس کی نشست کی جگہ ڈال دے۔

شراب ترک کروانے کے لئے | سورۃ المؤمن (پ) سفید کپڑے پر شب کو لکھ کر

شرابی کو پلاتے سے شراب کی عادت چھوٹ جاوے۔

برائے حمل | وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ سَمَكٍ (مؤمن: ۱۲ تا ۱۴) عورت

کے حاملہ ہونے کے واسطے یہ آئیں ریحان ازجی کے سات پتوں پر لکھ کر عورت اس کو ایک ایک پتہ کر کے ٹھکل جاوے اور ہر پتہ پر زرد رنگ کی گائے کا دودھ ایک ایک گھونٹ پی جاوے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو حمل قرار پائے گا۔

برائے مقبولیت | لوگوں کی نظر میں مقبول ہونے کے لئے آیات مذکورہ بار ایک کپڑے

پر جو آبِ توت میں غوطہ دیا ہوا ہو لکھ کر عمامہ کے نیچے اور اگر عورت ہو تو عصابہ کے نیچے رکھ لے۔

حفاظت کشتی از جملہ آفات | فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ مِنَ الْمَيِّدِينَ (مؤمن: ۲۸، ۲۹) اس کو پڑھنے سے کشتی سب آفات سے محفوظ رہتی ہے اور بزرگھر میں

پڑھنے سے چور اور دشمن اور جہنم وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔

دفع آسیب | أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ (مؤمن: ۱۵ تا ۱۸) آسیب زدہ کے کان میں پڑھ کر بچھڑنے سے آسیب دفع ہو جاتا ہے۔

برائے حفاظت احتلام | سورۃ النور (پ) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے احتلام

سے محفوظ رہتا ہے اور اگر اس کو آپ زمرم سے لکھ کر پیوے تو شہوتِ جماع منقطع ہو جائے۔

زبان بندی کے لئے | لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ سَخِيبٌ (نور: ۱۲ تا ۱۸) بدگو

اور بد زبان شاعر وغیرہ کی زبان بندی کے لئے ان آیتوں کو انگور سفید کے پانی پر پڑھ کر

اور اس میں قدرے شکر ملا کر کے اس کا حلوا بنا کر اس شخص کو کھلائے پھر یہ آیتیں

آتش نار سیدہ شہد سے مٹی کی ٹھیکری پر لکھ کر اس بدگو کو پلا یا جاوے۔

مقبولیت عوام | اَللّٰهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ سِیَ بَغِیْرِ حِیَاسٍ تَمَّکَ رَنَدُ ۳۵ تا ۳۸ قبول

عام کے لئے غسل کر کے جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھے اور جمعہ کے روز عصر سے قبل رُود قبلہ

بیٹھ کر اول سورہ یس پڑھے پھر یہ آیتیں ہرن کی جھلی پر دیندار عالم کی دوات کی سیاہی سے

لکھ کر اس کو لمپیٹ کر عصر کی نماز پڑھے اور تعویذ لکھ میں لے کر سورہ کھت پڑھے اور

تعویذ حفاظت سے اٹھا رکھے جو شخص وہ تعویذ اپنے پاس رکھے گا قبول عام اس کو حاصل ہوگا

برائے آشوب چشم | اور اگر آیات مذکورہ آشوب چشم پر روز مسرہ صبح کے وقت تین بار

پڑھ کر دم کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ آشوب چشم جاتا رہے گا۔

حفاظت از جانور مودی وغیرہ | سورہ فرقان (پ)۔ اگر اس کو تین بار لکھ کر باندھ

لے تو کوئی مودی جانور اٹوٹا وغیرہ ایذا نہ پہنچائے اور اگر شیریر لوگوں کے درمیان

جاسینچے تو ان کا مجمع متفرق ہو جائے اور کوئی مشورہ ان کا درست نہ ہونے پائے۔

دریافت کرنا دقینہ کا | سورہ الشعراء (۱ تا ۱۹) اگر کسی جگہ دقینہ کا شبہ ہو اور اس کا دریا

عَلَمُوْا بَنِي إِسْرَآئِیْلَ تَمَّکَ (آیہ ۱۹ تا ۱۱۹) اگر کسی جگہ دقینہ کا شبہ ہو اور اس کا دریا

کرنا منظور ہو ایک مرغ سفید سیلگوں چشم یا تاجدار لے کر یہ آیتیں ایک کاغذ پر لکھ کر نابالغ

دختر کے ہاتھ کے کاتے ہوئے سوت کے کپڑے میں سی کر اس مرغ کے بازو پر باندھ دے

اتوار کے دن زوال آفتاب کے وقت شبہ کی جگہ چھوڑ دے دقینہ کی جگہ جاکھڑا ہوگا۔

اور پنجول اور منقار سے کربدنا شروع کرے گا۔

دفع سانپ بچھو و مودی جانور | سورہ النمل (پ) جو شخص اس کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر

مدبوغ چڑے میں رکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی نعمت اس کی قطع نہ ہو اور اگر صندوق میں

رکھ دے تو اس گھر میں سانپ بچھو خفاش و زندہ اور کوئی موذی جانور نہ آوے۔

دریافت حال ناظم | وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ سَتْرَانِیْكَ (نمل: ۸۱)

اگر اس کو سانپ کی جلد پر آب باراں اور زعفران و گلاب سے لکھ کر سوتے ہوئے آدمی کے سینہ پر رکھ دیں تو وہ سب اپنا کیا کرایا ظاہر کر دے مگر جس راز کا تجسس حرام ہے اس کے لئے یہ عمل کرنا حرام ہوگا ایسے کام کرنے سے پہلے کسی عالم سے مستوی لینا واجب ہے۔

بھلا بُرا دریافت کرنے کے لئے | وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ سَبِّحُوْهُ بِحَمْدِہٖ اٰخِرُ سُوْرَتِ

تک (نمل: ۹۳) کھرے کھوٹے روپے جدا ہونے کے لئے اس آیت کو پڑھ کر روپیوں کو الٹ پلٹ کرے، کھرے کھوٹے الگ نکل آئیں گے ایسے ہی ہر چیز میں بھلا بُرا دریافت کرنے کے لئے۔

غلام کو خیانت سے روکنے کے لئے | سُوْرَةُ الْقَصَصِ (پہ) اس کو لکھ کر اپنے غلام

کے باندھے تو اس سے خیانت اور بدکاری اور بھاگنے کی عادت دفع ہو جاوے۔
امراض شکم وغیرہ | سورت مذکور اگر مریض شکم کے اور طحال اور درو جگر کے باندھ دے تو یہ امراض جاتے رہیں۔

حفاظت از شر | وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَیْنٍ مِّنْہُمَا فَلَیْلٍ (قصص: ۲۵ تا ۲۸) تک

اس کو بکثرت پڑھنے سے ظالموں کے شر سے محفوظ رہے۔

برائے حفظ و ترقی فہم و علم | وَ اَقْبَدَ وَصَلْنَا بَعْدَ الْقَوْلِ مِّنْہُمَا فَلَیْلٍ (تک

(قصص: ۵۱ تا ۵۵) قوتِ حافظہ و ذہن و فہم و علم کے لئے مہینہ کی اول جمعات جمعہ ہفتہ کو روزہ رکھے اور یہ آیتیں شیشہ کے برتن میں رات کو لکھ کر آب نہر جاری سے دھو کر

قل طلوع اس شخص کو پلایا جاوے۔

حصول کامیابی | سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سے بُرْجَعُونَ تک

(قصص: ۶۸ تا ۷۰) اگر کسی کی بھوٹی گواہی یا حاکم کے غلط فیصلے اور ظلم سے اندیشہ ہو تو

پیشی مقدمہ کے وقت یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھے اور دین بارکے وَاللَّهُ غَالِبٌ

عَلَىٰ أَمْرِهِ انشاء اللہ تعالیٰ سب شروں سے محفوظ رہے گا۔

چوتھئیہ کے واسطے | سورہ عنکبوت (پ) چوتھئیہ کے واسطے اس کو لکھ کر پانی سے

دھو کر پیوے۔

دفع غم | دفع غم و کسل اور حصول سرور و شرح صدر کے لئے اس سورت

کا در و مفید ہے۔

ظالم کو بیمار کرنے کے لئے | سورہ روم (پ) ظالم کے بیمار کرنے کے واسطے

اس سورت کو لکھ کر آب باران میں ملا کر مٹی کے برتن میں رکھ پھوڑے اور اس کو پلاوے۔

دشمن پر دہشت غالب کرنے کے لئے | كَذَٰلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ سَآءَ آخِرَتِكَ

(سورہ: ۵۹ تا ۶۰) دشمن ظالم پر دہشت و حیرت غالب کرنے کے لئے اس کے کپڑے

پر یہ آیتیں لکھ کر اپنے پاس رکھے مگر بلا طریق مشروع اس کا کپڑا لینا جائز نہیں بلکہ

ایسی تدبیر کریں کہ وہ شخص کسی کو اپنا کپڑا دے دے اور وہ تم کو خوشی سے دے دے

یا کسی طرح خرید لیا جاوے۔

پیٹ کی تمام بیماریوں کے لئے | سورہ لقمن۔ (پ) اس کو لکھ کر پلینے سے

پیٹ کی سب بیماریاں اور بخار تیرہ و چوتھئیہ جاتا رہے اور اس کو پڑھنے سے عرق

ہونے سے مامون رہے۔

سکون طوفان دریا | اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْوِیْ سَے شَکُوں تک (لقن: ۳۱)
طوفان دریا ساکن کرنے کے واسطے سات پرچوں پر لکھ کر دریا میں جانب مشرق میں،
یکے بعد دیگرے ایک ایک ڈال دیا جاوے۔

بخار و در دسر و مرگی وغیرہ | سُورَةُ الْمَسْجِدِ (پ) بخار اور در دسر تمام یا نصف
اور مرگی کے لئے لکھ کر باندھ دیا جاوے۔

بچوں کی نشو و نما کے لئے | اَلَّذِیْ اَحْسَنَ سَے تَشْکُوْدُنَ تک (الْمَسْجِدِ: ۴)
جب بچہ پیدا ہوئے سترہ دن گزر جائیں ان کو شیشہ کے برتن میں لکھ کر آب باران سے
دھو کر دو حصہ کرے ایک حصہ اس بچے کی کھانے کی چیز میں ملاوے اور ایک حصہ
بوتل میں رکھ چھوڑے اور سات روز تک اس بچہ کو پلاویں اور اس کے منہ کو ملیں
انشاء اللہ تعالیٰ خوب نشو و نما ہو۔

کثرت پیغام نکاح و خیران | سُورَةُ الْاَحْزَابِ (پ) لڑکیوں کے پیغام بہتر
آنے کے لئے اس کو ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبہ بند کر کے گھر میں رکھ دے۔
برائے عزت و آبرو | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ سَے وَ کَیْلًا تَمَک (احزاب: ۵۷)
روغن چنبیلی میں مشک و زعفران حل کر کے بعد نماز صبح ان آیات کو سات روز تک
اس پردہ کر کے شیشی میں رکھ چھوڑے ابرو اور رخساروں کو لگا کر جس کے رُوبرو
جاوے وہ اس کی عزت کرے اور سب پر اس کی مہبت ہو۔

دشمن کو دیران کرنا | لَیْسَ لَکُمُ الْیَتِیْمَ الْمَنْفِقُوْنَ سَے الرَّسُوْلَ تَمَک (احزاب: ۶۰ تا ۶۶)
ایتنے ۶۰ تا ۶۶ جو ظالم کسی طرح فہمائش سے باز نہ آوے ایک کنواں محفل جس کا سوت
مشرق کی جانب ہو تلاش کرو اور بقدر ایک کا س کے اس کو پانی لے کر ان آیات کو

ایک پرچہ پر لکھ کر اس پانی سے دھو کر اس کے گھر میں چھڑک دو۔

حفاظت از آفات ویرقان | سُورَةُ السَّارِیِّ (پ) کا غذر لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے تمام موزیات و آفات سے مامون رہے اور ویرقان کے واسطے پلانا اور منہ پر پانی چھڑکنا مفید ہے۔

حفاظت جانور | سُورَةُ الْفَاطِرِ (پ) کا غذر لکھ کر جانور کے گلے میں باندھنے سے ہر آفت سے محفوظ رہے۔

تجارت میں برکت ہو | اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ سَکُوْدُ الْکَمَلِ (فاطر: ۲۹، ۳۰) برکت تجارت کے لئے سوتی کپڑے کے چار کڑوں پر لکھ کر اپنے مال و متاع میں رکھ دے۔ قوت حافظہ و غالب ہونے کے لئے | یس (پ) اس کے عجیب و غریب خواص ہیں منجملہ ان کے یہ کہ اس کو سات روز تک زعفران و گلاب سے لکھ کر روزانہ پئے تو جوئیں لے اس کو یاد رہے جس سے گفتگو کرے اس پر غالب رہے۔

عورت کا دودھ بڑھانے کے لئے | یہ سورت لکھ کر پلانے سے دودھ پلانے والی عورت کا دودھ بڑھ جادے۔

نظر بد و ہر بیماری کے لئے | لکھ کر پاس رکھنے سے نظر بد اور جملہ بیماریوں اور درد سے حفاظت رہے۔

دشمن پر غلبہ پانا | اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَآ قِیْہُ سَ لَا یُبْصِرُوْنَ سَک (یس: ۹۸) اگر ڈھال پر لکھ کر اعدائے دین کا مقابلہ کرے، غالب رہے۔

حفاظت چور سے | یہ آیتیں بستر پر لیٹ کر پڑھنے سے چور اور غصہ سے محفوظ رہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لئے | اگر دو شخص جھگڑا کرتے ہوں اس وقت پڑھ دیتے

سے جو ناحق پر ہے وہ بند اور مغلوب ہو جائے۔

دفع آسید | سُوْرَةُ الصّٰقَات (پ) شروع سے ثَاقِبْ (آیہ ۱۰) تک آسید وہ کے لئے پڑھ کر دم کرنا نافع ہے۔

کنواں کھودنے یا چشمہ نکالنے کے واسطے | سُوْرَةُ صّ (پ) اُرْعَضْ بِوَجْهِكَ مَرَّابِ تَمَّک (آیہ ۴۲ تا ۵۱) کنواں کھودنے یا چشمہ نکالنے میں اس کو بکثرت پڑھنے سے پانی عمدہ بکثرت بکھلے گا۔

برائے محبوبیت و مقبولیت | سُوْرَةُ زَمَر (پ) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے خلق کی نظروں میں محبوب و مقبول ہو۔

ظالم سے بچنے کے لئے | سُوْرَةُ مُؤْمِن (پ) سَتَنْذِرُكَ مِنَ الْعَذَابِ (آیہ ۴۴) ظالم کے سامنے پڑھنے سے اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔

آنکھوں کی بیماری کے لئے | سُوْرَةُ لَحْمِ سَجْد (پ) اس کو لکھ کر آبِ باراں سے دھو کر اس میں سُرمہ پیس کر لگانے سے یا خود اس پانی سے آنکھ دھونے سے سفیدی اور آشوب چشم اور ناخن وغیرہ سے نفع ہوتا ہے۔

مشر سے حفاظت | سُوْرَةُ شُوْرٰی (پ) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔

دفع کھانسی | سُوْرَةُ الزّٰخَر (پ) اس کو لکھ کر آبِ باراں سے دھو کر پلانے سے کھانسی دفع ہوتی ہے۔

دفع سحیش | سُوْرَةُ دُرّان (پ) اس کو لکھ کر پیتے سے سحیش دفع ہوتی ہے۔

حفاظت بچہ | سُوْرَةُ جاثیہ (پ) پیدائش بچہ کے وقت اس کو لکھ کر باندھنے سے

تمام آفات دُوزخی جانور سے محفوظ رہے گا۔

دفع جن و شر وغیرہ | سُوْرۃِ احْقَاف (پ) | اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر رکھنے سے تمام جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

برائے محبوبیت | سُوْرۃِ مُحَمَّد (پ) | اس کو لکھ کر آب زم زم سے دھو کر پیتے سے لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے۔

دفع امراض | اس کے پانی سے غسل کرنا تمام امراض کا ازالہ کرتا ہے۔

برائے روزی | سُوْرۃِ الْفَتْح (پ) | رمضان شریف کے رویت ہلال کے وقت تین بار پڑھنے سے تمام سال روزی فراخ رہے۔

برائے فتح | سورت کو لکھ کر قتال یا جدال کے وقت پاس رکھنے سے مامون رہے اور فتح میسر ہو۔

مقبولیت عامہ و حفاظت از غرق | کشتی میں سوار ہو کر سورت کے پڑھنے سے غرق سے مامون رہے | اِنَّا فَتَحْنَا سَے حَکِیْمًا تک (فتح: ۱ تا ۴) قبولیت عامہ کے لئے باد و صومشک و گلاب و زعفران سے ہرن کی جھلی پر لکھ کر ٹوپی میں رکھ لے کر پنتے وقت بھی باد و صوم ہو۔

دفع آسیب | سُوْرۃِ الْحَجَرَات (پ) | اس سورت کو لکھ کر دیوار پر چسپاں کر دے تو آسیب نہ آوے۔

برائے حفاظت حمل و افزونی دودھ | اس سورت کو لکھ کر پلانے سے دودھ بڑھے اور حمل محفوظ رہے۔

دائمی دولت کے لئے | سُوْرۃِ ق۔ (پ) | جس گھر میں پڑھی جاوے اس کی دولت

دام رہے۔

برائے نشوونمائے درخت و برکت | آغاز سورۃ قی سے اَلْخُرُوجِ تَحٰک (۱۱) درخت میں برکت و حفاظت کے لئے ربیع کا اول آب باراں کسی نئے روغنی یا شیشہ کے برتن میں لے کر اور یہ آیتیں سات پرچوں پر زعفران و گلاب سے لکھ کر طلوع صبح صادق کے وقت اس پانی سے دھو کر اور دھوتے وقت بھی آیات کو سات مرتبہ پڑھ کر رات کے وقت جس درخت کی جڑ میں یا کھیت کے وسط میں وہ پانی پھیریں یا جو دانہ اس پانی میں تر کر کے بویں خوب نشوونما ہو اور سب آفات سے محفوظ رہے۔

دفع خوف و درد شکم | اور آب باراں سے ان آیات کو دھو کر پینے سے خوف اور ہول اور درد شکم دفع ہو۔

بچہ کے دانت نکلنے کے لئے | جس لڑکے کے دانت نہ نکلے ہوں یہ آیتیں لکھ کر اس کو پلانے سے دانت باسانی نکلیں۔

تحقیف مرض | سورۃ الذاریات (پڑھا) مریض کے پاس پڑھنے سے مرض میں تحقیف ہوتی ہے۔

آسانی ولادت | یہ سورت لکھ کر حاملہ کے باندھنے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔

رہائی از قید | سورۃ الطور (پڑھا) اگر قیدی ہمیشہ اس کو پڑھا کرے تو جلدی رہائی پاوے۔

برائے امن سفر | اگر مسافر یہ سورت پڑھے راستہ میں ہر طرح کا امور رہے۔

بچھو مارنے کے لئے | اگر یہ سورت پڑھ کر پانی کو بچھو پر پھڑک دیا جائے تو بچھو مر جائے۔

برائے مغلوبیت | سُوْرَةُ النِّعَمِ (پٹ)، مہرن کی جھلی پر لکھ کر باندھنے سے سب پر غالب رہے۔

برائے وجاہت | سُوْرَةُ الْقَمَرِ (پٹ) جمعہ کے روز قبل نماز لکھ کر عمامہ کے اندر رکھنے سے وجاہت حاصل ہوتی ہے۔

آشوب چشم و طحال | بھانور مودی | يَا مَعْشَرَ الْجِثِّ وَالْاِنْسِ سے بِسْمَلٰیٰنِ تک (ماجن: ۳۲) کوئی گتا بھونکتا ہو اس کے سامنے پڑھے تو خاموش ہو جائے۔

آشوب چشم | یہ آیت لکھ کر باندھنے سے آشوب چشم دفع ہو جاوے۔

دافع طحال | یہ آیت لکھ کر دھو کر پینے سے طحال دفع ہو۔

دافع سانپ و بچھو | دیوار پر لکھ کر گٹانے سے سانپ بچھو دفع ہوں

آسانی ولادت | سُوْرَةُ الْوَاْقِعِ (پٹ) اس کو لکھ کر باندھنے سے بچہ آسانی پیدا ہو

دفع بھوک و پیاس | سُوْرَةُ مَذْكُورِ کو بادفتو صبح و شام پڑھنے سے گرسنگی و

تشنگی دفع ہو۔

حفاظت تیر و تیغ | سُوْرَةُ الْحَدِیْدِ (پٹ)۔ اس سورت کو لکھ کر پاس رکھنے سے

تیر و تیغ سے محفوظ رہے۔

دفع بخار و ورم | اس سورت کو پڑھنا اور دم کرنا بخار اور دم کو بھی مفید ہے۔

واسطے سکون مریض | سُوْرَةُ الْمَجَادِلِ (پٹ) اس کو مریض کے پاس پڑھنے

سے نیند اور سکون آوے۔

حفاظتِ غلہ | اگر غلہ میں لکھ کر رکھ دے اس میں کوئی بگاڑ نہ ہو۔
برائے ذہانت | سُوْرَةُ الْحَشْرِ كَوْنًا لِّمَا هَذَا الْفُتْرَانِ سے آخر تک (آیہ ۱۲ تا ۱۳)
 سفید جام پر لکھ کر آبِ باراں سے دھو کر پینے سے ذکاوتِ فطانت زیادہ ہو۔
دفعِ درد | کسی قسم کا درد و غصہ نہیں ہو با وضو اس پر پڑھتے سے دفع ہو جاتا ہے۔
دفعِ طحال | سُوْرَةُ الْمُتَحَنِّ (پٹ) اس کو لکھ کر تین روز متواتر پینے سے مرضِ طحال دفع ہو جاتا ہے۔

قبولیتِ عوام | سُوْرَةُ الْصَّف (پٹ) یُرِیْدُوْنَ لَیْطَفُوْا سے فَتَحُ قَرِیْبٌ تک
 (آیہ ۸ تا ۱۳) خاصیت: حریر سفید کے کپڑے پر مشک خالص و زعفران اور آبِ نسreen
 منقار سے لکھ کر اندر کے کرتے میں رکھے قبولِ عام اور ہیبت حاصل ہو۔
برائے حفاظت و برکت | سُوْرَةُ الْجُمُع (پٹ) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ سے اَلْعَظِیْمَةُ تک
 (آیہ ۳) صدقے کے ٹکڑے پر جمعہ کے روز لکھ کر مال یا خرمن میں رکھنے سے برکتِ حفاظت رہے۔
آشوبِ چشم و در و ذیل | سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ (پٹ) آشوبِ چشم اور ہر قسم کے درد اور
 ذیل پر دم کرنا نافع ہے۔

دشمن کی زبان بندی | وَاِذَا اَرَاٰ یَتَحَدَّ مِنْ یُّوْفِکُوْنَ تک (منافقون: ۳)
 دشمن کی زباں بندی کے لئے پاک مٹی پر جس پر کوئی چھانہ ہو پڑھ کر تھوڑی مٹی اس
 کے منہ پر اس کی بے خبری میں ڈال دے۔

حفاظتِ ظالم | سُوْرَةُ التَّغَابُنِ (پٹ) پڑھ کر کسی ظالم کے پاس چلا جائے
 تو اس کے شر سے محفوظ رہے۔

برائے تدبیر روزی | سُوْرَةُ الطَّلَاقِ (پٹ) آیہ: وَمَنْ قَدَّرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ سے

یُسْرًا تک جس کی روزنی تنگ ہو گناہ سے توبہ کرے اور نیکی کا ارادہ کرے اور شب جمعہ کی نصف شب کو اٹھ کر سو مرتبہ استغفار اور درود شریف سو مرتبہ اور یہ آیت سو مرتبہ پڑھ کر سو رہے خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ کیا تدبیر کرے جو نگی دفع ہو۔ سکون مرض و مرگی و درد وغیرہ | سُوْرَةُ التَّحْرِيمِ (پ) اس کو مرینس پر دم کرنے سے درد کو سکون اور مرگی والے کو افاقہ ہو اور جس کو نیند نہ آتی ہو آجائے اور مدیون کا قرض ادا ہو۔

اَشْتَوِبُ حَشْتَمُ | سُوْرَةُ مَلِكِ (پ) اس کو آشوب چشم پر تین روز تک روزانہ دم کرنے سے آرام ہو جائے۔

برائے فقر و فاقہ | سُوْرَةُ نون (قلم پ) اس کو نمازیں پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہو۔ حفاظتِ حمل | سُوْرَةُ الْحَاقَةِ (پ) اس کو لکھ کر حاملہ کے باندھنے سے بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے۔

حفاظتِ بچہ از ہر آفت وغیرہ | اگر بچہ پیدا ہونے کے وقت اسکا پڑھا ہو یا پانی منہ میں لگا دیں تو اس کو ذکاوت حاصل ہو اور ہر مرض اور ہر آفت سے جس میں بچہ مبتلا ہو جاتے ہیں محفوظ رہے اور اگر روغن زیتون پر پڑھ کر بچہ کو مل دیں تو بہت فائدہ بخشنے اور سب حشرات اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے اور یہ تیل تمام جسمانی دردوں کو تاقع ہے۔

دفعِ احتلام | سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ (پ) اس کو سوتے وقت پڑھنے سے جنابت اور پریشان خواب سے محفوظ رہے۔

برائے حاجتِ روائی و عزم | سُوْرَةُ نوحِ (پ) اس کا ورد ہر قسم کی حاجتِ دُائی

اور غم اور غم کے دفع ہونے کے لئے نافع ہے۔

رہائی قید | سُورَةُ الْجِن (پ) اگر قیدی اس کو پڑھے یا سانی رہائی پاوے۔

وسعتِ رزق | سُورَةُ الْمَزَل (پ) اس کو ہمیشہ پڑھنے سے روزی فراخ ہو۔

برائے حفظِ قرآن | سُورَةُ الْمَدَّثَر (پ) اس کو پڑھ کر اگر دعا قرآن حفظ ہونے کی کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ حفظ آسان ہو۔

رقتِ قلب | سُورَةُ الْقِيَمَةِ (پ) اس کو پاک پانی پر دم کر کے پیتے سے قلب میں رقت اور خشوع پیدا ہو۔

زبان پر علم کی باتیں | سُورَةُ الدَّهَر (پ) اس کو بکثرت پڑھے تو علم کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوں۔

دفعِ دُنبَل | سُورَةُ الْمُرْسَلَات (پ) اس کو لکھ کر باندھنے سے دُنبَل اچھے ہوتے ہیں۔
حاکم کے شر سے حفاظت | سُورَةُ النَّبَا (پ) اس کو پڑھ کر یا باندھ کر حاکم کے پاس جانے سے اس کے شر سے محفوظ رہے۔

دشمن سے بچنے کے لئے | سُورَةُ النَّازِعَات (پ) دشمن کے مواجب میں اس کو پڑھنے سے اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔

برائے حفاظتِ راستہ | سُورَةُ عَبَس (پ) اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے راستے کے خطرات سے مامون رہے۔

تقویتِ چشم | سُورَةُ التَّكْوِيْرِ (پ) پڑھ کر آنکھ پر دم کرنے سے تقویتِ بصر ہو اور آشوب اور جالاد دفع ہو۔

رہائی قید و بنجار | سُورَةُ الْاَنْفِطَار (پ) اس کو قیدی پڑھے تو جلدی رہائی ہو اور

اگر بخار والا اس کے پانی سے غسل کرے بخار جاتا رہے۔

دفع دیمک | سُورۃ التطفیف (پ) | اس کو کسی ذخیرہ کی ہوتی چیز پر پڑھ دے

تو دیمک وغیرہ سے محفوظ رہے۔

تسکین بیش | سُورۃ الانفقاق (پ) | کسی بیش زوہ پر دم کرے تو سکون ہو۔

بچہ کا دودھ پھیر دانا | سُورۃ البروج (پ) | جس کا دودھ پھیر دانا منظور ہو اس

کو لکھ کر اس کے باندھ دے یا سانی پھوڑوے۔

حفاظت ضرر دوا | سُورۃ الطارق (پ) | دوا پر دم کرنے سے دوا کچھ نقصان

نہ کرے۔

کان کی گونج و لبو اسیر کے لئے | سُورۃ الاعلیٰ (پ) | کان میں جو دوائی یعنی گونج

پیدا ہو جاوے اس کے دم کرنے سے وہ زائل ہو جائے اور لبو اسیر اس کے پڑھنے

سے اچھی ہو جائے۔

برائے اولاد نرینیہ | شروع مہینہ حمل میں اگر عورت کی دامن پسی پر یہ سورت لکھ

دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اولاد نرینیہ پیدا ہو۔

حفاظت کھانا | سُورۃ الفاشیہ (پ) | اس کو کھانے پر دم کرنے سے اس کے

ضرر سے محفوظ رہے اور دڑ پو پڑھنے سے سکون ہو۔

نیک بچہ پیدا ہونے کے لئے | سُورۃ الفجر (پ) | اس کو وسط شب میں پڑھ کر جماع

کرنے سے نیک بخت اولاد پیدا ہو۔

موذی جانوروں سے بچہ کی حفاظت | سُورۃ البلد (پ) | اس کو ولادت کے

وقت بچہ کے باندھ دینے سے ہر موزی جانور اور بچش سے محفوظ رہے۔

دفع مرگی و بیہوشی و بخار | سُوْرَةُ الشَّمْسِ (پت) مرگی والے اور بیہوشی والے کے کان میں پڑھنا مفید ہے اور اس کا دم کیا ہو اپانی بخار والے کو نافع ہے۔
والپسی گم شدہ | سُوْرَةُ الضُّحٰی (پت) جس کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی بھاگ گیا ہو اس کو سات مرتبہ پڑھنے سے وہ چیز مل جائے۔
برائے درد قلب | سُوْرَةُ الْاِنشِرَاحِ (پت) اس کو سینہ پر دم کرنے سے تنگی اور درد قلب کو سکون ہو۔

دفع پتھری | اس کا دم کیا ہو اپانی پینا پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے اور درد مثانہ کو نفع دیتا ہے۔

حفاظت غلہ | سُوْرَةُ التِّينِ (پت) اس کو غلہ کی کوٹھی میں پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے اور ضرر رساں جانوروں سے حفاظت دیتی ہے۔

حفاظت سفر | سُوْرَةُ الْاَعْلٰی (پت) اس کو لکھ کر سفر میں ساتھ رکھنے سے گھرانے تک ہر قسم کے آفات بری و خیری سے محفوظ رہے۔

برائے محبت | سُوْرَةُ الْقَدْرِ (پت) جس سے محبت ہو اس کے موئے نا ضیہ پکڑ کر یہ سورت پڑھے تو کوئی امر ناگوار اس سے سرزد نہ ہو۔

پسح بولنے کے لئے | اگر پسح بولنے کی ہمت و عزم کیا جاوے تو اس سورۃ کا بکثرت پڑھنا موجب اعانت اور سہولت ہے۔

دفع یرقان | سُوْرَةُ الْبَقِیَّةِ (پت) اس کو لکھ کر باندھنا اور پینا یرقان اور ورم کو نافع ہے۔

دفع لقوہ | سُوْرَةُ الزَّلٰلِ (پت) غیر مستعمل طشت میں لکھ کر اس کا پانی پینا لقوہ کو

نافع ہے۔

آسانی معاش و امن از خوف | سُورۃ العادیات (پت) اس کو لکھ کر پاس رکھنا آسانی

معاش اور امن از خوف کے لئے نافع ہے۔

وسعت روزی | سُورۃ القارعہ (پت) اس کا بکثرت پڑھنا روزی کو بڑھاتا ہے۔

دفع درد شقیقہ | سُورۃ التکاثر (پت) بعد نماز عصر پڑھ کر دم کرنا درد شقیقہ

کے لیے نافع ہے۔

حفاظتِ دھیتہ | سُورۃ العصر (پت) مال وغیرہ دفن کرنے کے وقت اس کو پڑھنے

سے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

دفع نظر بد | سُورۃ الہمزہ (پت) جس پر نظر بد لگ گئی ہو اس پر دم کیا جاوے۔

حفاظتِ دشمن | سُورۃ الفیل (پت) مقابلہ دشمن کے وقت اس کو پڑھنے سے

اس پر بفضلِ تعالیٰ غلبہ حاصل ہو۔

دفع درد گردہ | سُورۃ الایلاف (پت) کھانے پر دم کر کے کھانے سے ہر قسم کے ضرر

و تخمہ وغیرہ سے محفوظ رہے اور درد گردہ کو بھی نافع ہے۔

برائے حفاظت | سُورۃ الماعون (پت) استعمالی چیز پر پڑھ کر دم کر دو تو وہ

محفوظ رہے۔

زیارت رسول مقبول | سُورۃ الکوثر (پت) شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ اس کو

صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے تو خواب

میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔

حفاظتِ شرک و شک | سُورۃ الکافرون (پت) اس کو صبح و شام پڑھنے سے شرک

اور شک اور فساد اعتقاد سے محفوظ رہے۔

کثرتِ شکار مچھلی | سُوْرۃُ النّٰصِر (پ) | اس کو رانگے پر کندہ کر کے جالی میں باندھ دیں
تو اس میں بہت مچھلیاں پھنسیں۔

دفعِ درو | سُوْرۃُ ابی لہب (پ) | اس کو اگر درو کی جگہ لکھ کر باندھا جاو تو درو گھٹ
جاوے۔ اور انجامِ بغاقت ہو۔

کافروں کے لئے | سُوْرۃُ اخلاص (پ) | اس کی خاصیت مثل سُوْرۃ کافرون
کے ہے۔

دفعِ سحر و نظر بد و حفاظتِ بچہ وغیرہ | المعوذتین (الفلق، الناس پ) | ہر قسم کے
درد بیماری اور سحر و نظر بد وغیرہ کے لئے پڑھنا اور دم کرنا اور لکھ کر باندھنا مفید
ہے اور سوتے وقت پڑھنے سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے اور اگر اس کو لکھ کر
بچوں کے باندھ دے تو امِ الصبیان وغیرہ سے حفاظت رہے اور اگر حاکم کے و برو
جانے کے وقت پڑھ لے تو اس کے شر سے محفوظ رہے۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ
اَكْرَمَ وَّلِيْلِ اِلٰی اَقْوَمِ سَبِيْلِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعمالِ قرآنی

حصہ سوم

دفعِ دردِ دوسر | قیصرِ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت در دوسر کی عرض کی آپ نے ایک ٹوپی سلوا کر بھیج دی جب تک وہ ٹوپی سر پر رہتی درد کو سکون رہتا اور جب اس کو اتارتا پھر درد مہو نے لگتا اس کو تعجب ہوا اور کھول کر دیکھا تو اس میں فقط بسم اللہ لکھی تھی۔

دفعِ بخار | فقیہ محمد مازنی کو بخار ہوا ان کے استاد فقیہ ولی عمر بن سعید عیادت کو آئے اور ایک تعویذ بخار کا دے کر چلے گئے اور یہ فرما گئے کہ اس کو دیکھنا مت اغرض اس کو بانہا بخار اسی وقت جاتا رہا انھوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو بسم اللہ لکھی تھی ان کے اعتقاد میں سستی پیدا ہوئی فوراً پھر بخار لوٹ آیا انھوں نے جا کر شیخ سے عرض کیا اور اپنے فعل سے توبہ کی انھوں نے اور تعویذ دے دیا اور خود باندھ دیا فوراً بخار جاتا رہا انھوں نے ایک سال بعد اس کو کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ تھی اس وقت ان کا اعتقاد پختہ ہوا اور عظمتِ دل میں پیدا ہوئی۔

دفعِ درد | سورۃ الفاتحہ درمیان سنت و فرض فجر کے اکتالیس بار پڑھ کر دم کرنے سے درد جاتا رہتا ہے اور دوسرے امراض کے لئے بھی مفید و مجرب ہے اور بڑی شرط یہ ہے کہ عامل و مریض دونوں خوش اعتقاد ہوں۔

واپسی بخیریت از سفر | سورۃ فاتحہ مذکور پڑھنے سے مسافر بخیریت گھر لوٹ آئے۔

روائی قید | سورۃ فاتحہ ایک سو بار پڑھ کر بیڑی اور متھکڑی پر دم کرنے سے قیدی جلدی
روائی پاوئے

پیاس کا غلبہ نہ ہونا | صبح صادق کے وقت دونوں ہاتھوں پر یہ سورت دم کر کے چہرے
اور تمام بدن پر پھیرنے سے اس روز پیاس کا غلبہ نہ ہو۔

برائے مشقت روزی | آخر شب میں اکتالیس بار سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بے مشقت روزی ملے۔
برائے حاجات | سورۃ یسین جس حاجت کے لئے ۴۱ بار پڑھے وہ روا ہو۔

برائے بیمار و خوفزدہ وغیرہ | حارث ابن ابی اسامہ نے اپنی سند میں حدیث مرفوعہ نقل
کی ہے کہ جو شخص سورۃ یسین پڑھے اگر خوف زدہ ہو یا مومن ہو یا کافر یا بیمار ہو یا شفا پاوے
بھوکا ہو یا سیر ہو جاوے۔

حاجت روائی | دارمی نے حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ جو شخص اس سورت کو شروع دن
میں پڑھے اس کی حاجت پوری ہو۔

برائے مسرت و خرمی | بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اس سورت کو شروع دن میں پڑھنے
سے رات آنے تک خوش و غم رہے اور شروع رات میں پڑھنے سے دن آنے تک شادان
فرماں رہے۔

حاجتیں پوری ہونے کے لئے | سورۃ یسین میں چار جگہ لفظ الرَّحْمٰن آیا ہے اور تین
جگہ لفظ اللہ اور اسی طرح سورۃ تبارک الذی میں پس جو شخص سورۃ یسین پڑھے اور جب
لفظ رحمن آئے دامنہ ہاتھ کی ایک انگلی بند کرے اور جہاں لفظ اللہ آوے بائیں ہاتھ کی انگلی
بند کرے حتیٰ کہ ختم سورہ پڑا ہونے ہاتھ کی چاروں انگلیاں بند ہو جائیں گی اور بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں
پھر تبارک الذی پڑھے اور لفظ رحمن پڑا ہونے ہاتھ کی انگلیاں کھول دے اور لفظ اللہ پڑھیں

ہاتھ کی کھول دے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں اور دعائیں قبول ہوں۔
مقبولیت دعا | آیتہ الکرسی، جمعہ کے روز بعد عصر خلوت میں ستر بار پڑھنے سے قلب میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی اس حالت میں جو دعا کرے قبول ہو۔

برائے خیر | اور جو شخص اس کو تین سو تیر بار پڑھے خیر بے شمار اس کو حاصل ہو۔
برائے غلبہ | اگر مقابلہ عدو کے وقت اسی کے نام کے عدد کے موافق پڑھیں غلبہ حاصل ہو۔
حفاظت شتر | سورۃ تبارک الذی، اگر رویت ہلال کے وقت پڑھ لے تمام مہینہ خیریت سے گزرے اور جملہ شرور سے محفوظ رہے۔

دفع کلّی | سورۃ شتر، ایک شخص کے کان میں کلنی جس کو بعض لوگ چیچھڑی کہتے ہیں گھس گئی اور بہت پریشان کیا اس نے تھوڑا سا زمرم لے کر دس آستیں آل عمران کے شروع کی اور آخر کی پانچ آیتیں سورۃ شتر کی کو آواز دے گا سے آخر سورۃ تک اس پر دم کر کے پی لیا پانی کا پیٹ میں اتارنا تھا کہ وہ کلنی کان سے نکل آئی۔

برائے حاجت | سورۃ واقعہ، ایک مجلس میں ۴۱ بار پڑھنے سے حاجت پوری ہو اور بالخصوص جو رزق کے متعلق ہو۔

برائے غلبہ دشمن و قضاے حاجات | سورۃ طہ، صبح صادق کے وقت اس کے پڑھنے سے نیا رزق ملے اور سب حاجات پوری ہوں اور لوگوں کے دل مسخر ہوں اور دشمن پر غلبہ ہو۔

برائے حصول خیر و دفع گرسنگی | سورۃ اخلاص، جو شخص اس کو پڑھا کرے ہر قسم کی خیر حاصل ہو اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے اور جو بھوک میں پڑھے میر ہو جائے اور جو بکثرت یا صمد پڑھے کھانے پینے کی چنداں حاجت نہ رہے۔

دفع جن و موزی جانور | اگر خرگوش کی جھلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی ظالم انسان اور جن اور موزی جانور اس کے پاس نہ آوے۔

آسانی کار | اور ادوقت خواب، صُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ بار اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ بار
اللہ آگے بڑھ ۳۴ بار مدامت کے ساتھ پڑھنے سے محنت کے کام آسان ہو جاتے ہیں
اور بدن میں تکان نہیں ہوتا۔

حفاظت از احتلام | والسماء والطارق، ناصیۃ ترک سوتے وقت پڑھنے سے
احتلام سے حفاظت رہتی ہے۔

برائے نیند | إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ سَے تَسْلِيمًا تک پڑھنے
سے نیند خوب آتی ہے۔

حفاظت از شیاطین | إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ سَے اَلْعَلَمِينَ تک پڑھنے سے شیاطین سے محفوظ
رہتا ہے۔

برائے فتح بردشمن | اعمال نصرت در صرب وغیرہ، مِیْهُزْمُ الْجَمْعَةِ وِیُوْلُوْنَ
الدُّبُورِ مٹی پر پڑھ کر دشمن کی طرف پھینکنے سے ان کو شکست ہو۔

برائے حفاظت جانور | آیات حفظ، ایک بزرگ سے منقول ہے کہ جنگل میں ایک
بکری دیکھی جس سے بھیڑ یا کھیل رہا ہے یہ پاس گئے تو بھیڑ یا بھاگ گیا۔ دیکھتے کیا ہیں
کہ اس بکری کے گلے میں تعویذ ہے کھول کر دیکھا تو اس میں یہ آیتیں نکلیں۔ وَلَا یُؤْذَا
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ فَاللَّهُ خَبِيرٌ فَظَاوَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

۱۰ پتہ رکوع ۱۰ پتہ احزاب رکوع ۱۰ پتہ اعراف رکوع ۱۰ پتہ قمر رکوع ۱۰ پتہ بقرہ رکوع ۱۰

دشمن پر غلبہ | سورۃ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ تَنْہَاۃً مِّنْ مِّمِّنْ سَوَابِرْ مِّنْ مِّنْ دُشْمَنُوں پَر غلبہ حاصل ہو۔

نظر بد کے لئے | لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُتُوْدٍ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاۡسِئًا وَهُوَ حَسِيۡرٌ لِّكُوْنِ بَانَدِ هَمِّ اُوْرِطْ هَمِّ كَرْدَمِ كَرِّے۔

حفاظت از شرمو ذی | اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ - وَلَا يُوْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ - نَلْعَمُ اَبْوَابَهُمْ عَلٰۤى فَمَّ لَا يَرْجِعُوْنَ اَسْ كَے پُر مَعْنٰے ے اُوْر بَانَدِ هَمِّ ے دشمن کی زبان بند ہو۔

حفاظت از جانور موذی | یہ آیت پڑھ کر جس آدمی یا جانور سے اندیشہ ہو اس کی طرف دم کر دے۔

برائے حفاظت جانور

اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

آخر آیت تک، اس پر پڑھے گزند سے محفوظ رہے۔

دافع شدائد | حَمَّاسٌ سَيِّدٌ الْحَكِيمُ يَكْشُدُ الْوَقْتَ بِطَعْنِ مَفِيدٍ هـ۔

۱۔ پے صافات رکوع ۲۔ سورہ حجر رکوع ۳۔ پے حمزہ رکوع ۴۔ پے طارق رکوع ۵۔ پے بروج رکوع
۶۔ پے یمن رکوع ۷۔ پے ملک رکوع ۸۔ پے یسین رکوع ۹۔ پے مرسلات رکوع ۱۰۔ پے بقرة رکوع ۱۱۔

حفاظت از خوف | کعب الجبار سے منقول ہے کہ یہ سات آیتیں جب پڑھ لیتا ہوں پھر کسی بات کا خوف نہیں رہتا۔

اول :- قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا سِیَ الْمُؤْمِنُونَ تک۔

دوم :- وَإِنْ يَسْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُدْرِكَكَ بِضُرٍّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَا مَنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

سوم :- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ مُبِينٍ

چہارم :- اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ سِیَ مُسْتَقِیْمٍ تک۔

پنجم :- وَكَآئِنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحِیْ رِزْقَهَا اللّٰهُ یُرِزُّهَا وَاِیَّا کُمْ وَهُوَ السَّمِیْعُ

الْعَلِیْمُ۔

ششم :- مَا یَفْقَہُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ سِیَ الْعٰلِیْمِ تک۔

ہفتم :- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلْ

اَفَرَاٰیَکُمْ مَّا تَدْعُوْنَ سِیَ الْمُتَوَكِّلُوْنَ تک۔

مخالفین نہ دیکھ سکیں | برائے استعارہ از چشم عدد، اہلِ مین میں سے ایک بزرگ

فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر لڑائی ہو رہی تھی میں نے اِذَا لَیْزَلَتْ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر

اس طرف کو مٹی پھینک دی پھر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیتیں پڑھیں فَاصْرَبْ لَہُمْ طَرِیْقًا

فِی الْبَحْرِ سِیَ لَا تَخْشٰی تک وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ سَدًّا سِیَ لَا یُبْصِرُوْنَ

تک قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ مل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ رہا مخالفین پہنچ کر کہنے

لے پٹ تو بر رکوع ۱۵ پٹ یونس آخر رکوع ۱۵ پٹ ہود رکوع ۱۵ پٹ عیسیٰ رکوع ۱۵

لے پٹ فاطر رکوع ۱۵ پٹ حم سجدہ رکوع ۴ پٹ طہ رکوع ۱۵ پٹ یسین رکوع ۱

گئے کہ ابھی تو وہ شخص یہاں تھا گھل مل گیا اور ان کو نظر نہ آیا۔

گم شدہ کی واپسی | گریختہ و دستیابی گم شدہ جعفر خالہ دی کا ایک نگین و جلیں گر گیا انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ **يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَى صَلَاتِي اَيُّكُمُ رُزُقَ اَوْ لَقِيَ وَكَانَ ذَاتَ دِكْرِ** رہے تھے ان کا غذات میں وہ نگین مل گیا۔

دیگر یہ۔ **وَالْفُحْشَىٰ بَرِّئَ مِنْهَا** اور اس آیت کو تین بار پڑھے **وَدَّ جَدَّكَ ضَالًّا فَهَـٰمِي**۔

برائے چور | یہ آیتیں روٹی یا کسی خوردنی چیز پر لکھ کر جن پر شبہ چوری کا ہو ان کو کھلا دے چور نہ کھا سکے گا۔ **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سَئِيئَةً ثُمَّ نَحْنُ بِكُمْ بِمَنْ شَأْنِكُمْ يُخَبِّرُكُمُ اللَّهُ نَتَلَوْنَهَا عَلَيْكُمْ لَعَلَّ كُمْ تَعْلَمُونَ** سے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا** اور سورہ **الْأَنْعَامِ** سے **وَاللَّهُ الَّذِي يَخْرِجُ الْحَبَّ مِنَ الْعُثْبِ** سے **وَالْحَقِّ** سے **أَنْزَلْنَاهُ** سے **نَذِيرًا** تک **وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ**

واپسی مال مسروقہ | جس دروازہ سے مال یا گریختہ نکلا ہے اس میں کھڑا ہو کر سورہ الطارق پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ واپس آئے گا یا اس کو خواب میں دیکھ لے گا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا** اور سورہ **الْأَنْعَامِ** سے **وَاللَّهُ الَّذِي يَخْرِجُ الْحَبَّ مِنَ الْعُثْبِ** سے **وَالْحَقِّ** سے **أَنْزَلْنَاهُ** سے **نَذِيرًا** تک اس آیت کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر جس شخص کو بھاگنے کی عادت ہو یا جس عورت کو نافرمانی اور سرکشی کی عادت ہو اس کو کھلا دینے سے وہ عادت جاتی رہتی ہے۔

حفاظت مال | اپنے رومال وغیرہ کے کوٹہ پر ناختہ اور سورہ اخلاص اور مودتین اور قل یا ایہا الکافرون ہر سورت تین بار اور سورہ طارق ایک بار اور سورہ الفصحی تین بار پڑھ کر اس میں گرہ لگا دیں انشاء اللہ تعالیٰ جانے نہ پائے گا۔

دفع دروسر | برائے درد سر آخری جمعہ رمضان میں یہ آیت لکھ کر رکھ لے وقت نذر

۱۔ پ بقرہ رکوع ۱۰ ۲۔ پ ابراہیم رکوع ۲ ۳۔ پ نمل رکوع ۱ ۴۔ پ بنی اسرائیل رکوع ۱۵ ۵۔ پ آل عمران ۴

کام میں لادے۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی دَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفُلَّ سَیِّدًا اَمَّکَ۔

برائے درو شقیقہ | یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں، قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاَتَاخَذُكُمْ مِّنْ دُوْنِ اَوْلِيَآءَ لَا يَبْلِغُوْنَ اِلَیْهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا۔

دفع وجع قلب | وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِس آیت کو مٹی کے کورے

برتن پر زعفران و گلاب سے لکھ کر پاک پانی سے دھو کر پیوے درو قلب زائل ہو جائے۔

دفع تکسیر | وَ قِيلَ يٰۤاَرْضُ مَنۢ اَبْلَغٰی مَآءِکَ وَاَیْسَمَآءٌ اَقْبَلٰی وَغِیْضَ الْمَآءِ وَ

قُصِّیَ الْاَمْرُ۔ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ فَبَشِّرْهُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ

الْعَلِیْمُ کُتَان کے کپڑے پر لکھ کر ہاتھ پر باندھو۔

دفع درد ڈاڑھ | لَکَلِّ نَبَآءٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوَآءٌ تَعْلَمُوْنَ چھوٹے سے کاغذ پر

لکھ کر ڈاڑھ کے نیچے دبائے۔

ایضاً: برائے ڈاڑھ، جب کوئی اس کا شکی آئے اس سے کہہ دو کہ جس ڈاڑھ میں

درد ہے اس کو داسنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے پکڑے اور بات کرتے وقت اس

کو نہ چھوڑے پھر سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور اس سے کہو کہ تیرا کیا نام ہے

وہ نام بتا دے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور پوچھو تیری ماں کا کیا نام ہے وہ

اس کا نام بتا دے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور پوچھو تیرے کہاں درد ہے

وہ کہے ڈاڑھ میں درد ہے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور اس سے کہو کیا خدا

کے حکم سے اس کو کیل دوں وہ کہے ہاں پھر اسی طرح فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور

۱۵ پُ فقرہ رکوع ۵ ۱۶ پُ رعد رکوع ۵ ۱۷ پُ اعراف رکوع ۵ ۱۸ پُ ہود رکوع ۵ ۱۹ پُ زمر رکوع ۵

۲۰ پُ بقرہ رکوع ۱۱ ۲۱ پُ انعام رکوع ۸۔

اس سے پوچھو تیری کیا عمر ہے وہ اپنی عمر بتلا دے پھر فاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھو اور اس سے کہو کہ تھوڑی دیر جا کر آرام کرے بلکہ سو رہے تو بہتر ہے انشاء اللہ تعالیٰ سکون ہو جائے گا۔

ایضاً:- برائے درد وارٹھ اس طرف کے رخسار پر ہاتھ پھیرنا جائے اور یہ آیت پڑھنا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْ لَمْ یَزَلِ الْاِنْسَانُ اَنْتَا خَلَقْتَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِیْنٌ اور آیت الکرسی اور یہ آیتیں پڑھے وَلَكُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نُفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ - وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ - وَ نَزَّلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُذْنِبِیْنَ۔

ایضاً:- برائے درد وارٹھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت نقل کی ہے کہ بصر میں ایک شخص ڈارٹھ کیلے تھا اور بتلانے سے بخل کرتا تھا مگر وقت اس نے بتلا دیا وہ یہ ہے کہ اَلْمَنْعُ - كَهَيْعَتِهِ - حَمَّسَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اُسْكُنْ اَيُّهَا الْوَجْهُ بِالَّذِي اَنْتَ يَتَشَاءُ لِيَكُنَ الرَّحْمٰنُ فَيَطْلُبَنَّ رَدَاۤءَ عَدُوِّكَ عَلَيْهِ - وَلَكُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ پڑھ کر دم کر دے یا لکھ کر باندھ دے۔

برائے آشوب چشم | برائے آشوب چشم لکھ کر باندھ دیا جائے اِذْ هُوَ اَبْقِیُّیْ هٰذَا سَیَ بَصِیْرًا اَمَّكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیْدٌ۔

۱۰ پانچ یسین آخر رکوع ۱۱ پانچ انعام رکوع ۱۲ پانچ المجد رکوع ۱۳ پانچ بنی اسرائیل رکوع ۱۴ پانچ اعراف شروع ۱۵ پانچ مریم شروع ۱۶ پانچ شوری شروع ۱۷ پانچ نمل رکوع ۱۸ پانچ شوری رکوع ۱۹ پانچ انعام رکوع ۲۰ پانچ یوسف رکوع ۲۱ پانچ ق رکوع ۲

دفع تکسیر | تکسیر والے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیتیں پڑھو اور آخر میں یہ کہہ دو کہ اے تکسیر بند ہو بحکم واحد و قہار عزیز و جبار آیتیں یہ ہیں:-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اَنْتَا مُمْسِكُهُمَا
مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اِنَّهٗ كَانَ خَلِيْفًا عَفُوًّا ذُو قِلَّةٍ يٰۤاَرْضُ سَلِّطِيْكَ
بِرَاۤءِئِیْ وَسَعَتِ عِیْشٍ | برائے وسعت عیش اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اَوْقُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ
اَوْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ گیارہ گیارہ بار پاک پانی پر دم کر کے نئے کپڑے پر پھیر دے
تو اس کے استعمال تک عیش میں رہے۔

برائے قرارِ حمل | جس روز عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے ایک بکری کا بچہ
قریب ذبح کر کے ایک دیگچہ میں تھوڑے پانی میں بخنی کے طور پر پکا یا جلے اور وہ پانی
عورت کو پلایا جائے اور ایک برتن میں سورہ فاتحہ اور ورد شریف اور عرفہ ابجد سے
ضبط تک اور دوسرے برتن میں قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ لِّیْکَ لِاَهْبَ لَکَ عَلَمًا
زَحٰیًا قَالَ رَبِّیْ هُوَ عَلٰی ہٰٓئِیْنٍ وَّلَیْنَجْعَلْکَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ
اَمْرًا مَّقْضٰیًا فَحَمَلَتْہُ بِعَوْنِ اللّٰهِ فَحَمَلَتْہُ بِطُفِیِّ اللّٰهِ فَحَمَلَتْہُ بِلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَانْتَبَذَتْ بِہَا مَكَانًا قَصِیًّا - اِنَّمَا اَمْرُہٗ اِذَا ارَادَ شَیْءًا اَنْ یَّقُوْلَ
لَهَا کُنْ فِیْکُوْنُ لَکَ پانی میں حل کر کے وقتِ قربت شوہر پی لیسے انشاء اللہ تعالیٰ
حمل رہ جائے گا۔

حفاظتِ استقراطِ حمل | با بار درخت پر یہ لکھ کر باندھ دیا جاوے۔

اِنَّ اللّٰهَ یُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ سَ عَفُوًّا اَمَکَ وَلَہٗ مَا سَکَنَ فِی الْاَنْبِیِّ وَالنَّہَارِ سَ
لے پچا فاطمہ آخر رکوع ۵۷ پچا ہود رکوع ۴۷ پچا مریم رکوع ۲۷ پچا یسین آخر رکوع ۵۷ پچا فاطمہ

رَغِيْفَ الْمَاءِ وَتَقْضَى الْأَمْرُ - كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَلْعَاهَا اللَّهُ أَمْشِيكَ
 أَيُّهَا الْمَاءُ النَّازِلُ مِنْ صَلْبِ فَلَانِ بْنِ قُلَاحٍ نَتَّيْلًا حَوْلَ دَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -
 دفع استرخاء عضوتناسل | تین روزہ رکھے پھر نصف شب کے وقت اٹھ کر اپنی اپنی
 بتھیلی پر تانبے کے قلم سے گلاب زعفران سے لکھ کر چاٹ لے مین دفعہ اسی طرح کرے
 انشاء اللہ تعالیٰ شکایت رفع ہو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْبُ الَّذِیْنَ یَسْمَعُوْنَ سَ الْعَوْنِ یَبْعَثُهُم
 اللّٰهُ ثُمَّ اِلَیَّیْ یَرْجِعُوْنَ تک -

دفع آسیب | پاک پانی پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن کے شروع کی پانچ
 آیتیں پڑھ کر آسیب زدہ کے چہرہ پر چھڑک دیں اور جس مکان میں شبہ ہو اس میں چھڑک
 دیں انشاء اللہ تعالیٰ دفع ہو۔

ایضاً: - پاک برتن پر فاتحہ اور آیت ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْهُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ سَ الصَّدَاقِ
 تک اور مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا اللّٰہ سے آخر سورت تک لکھ کر روغن کنجد سے دھو کر آسیب زدہ
 کے بدن پر اس روغن کی مالش کی جاوے انشاء اللہ تعالیٰ پھر اثر نہ ہوگا۔

ایضاً: - امام غزالیؒ نے ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ کسی بزرگ کی ایک لونڈی شب
 کو پیشاب کرنے بیٹھی اور آسیب کے اثر سے بے ہوش ہو گئی ان بزرگ نے اٹھ کر یہ کلمات
 پڑھے اسی وقت ابھی ہو گئی - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْمَصْ ، اَلْمَصْ ، اَلْمَصْ
 کَلِیْعَصْ - یَسْ وَالْقُرْآنِ الْعَلِیْمِ - حَمْدٌ عَسَقَ - ق - ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ -

۱۵ پ اعراف رکوع ۱۵ پ اعراف رکوع ۱۶ پ الفتح رکوع ۱۷ تا آخر ۱۸ پ اعراف
 شروع ۱۹ پ الحمد شروع ۲۰ پ شعراء شروع ۲۱ پ یسین شروع ۲۲ پ مریم شروع - ۲۳
 پ شوریٰ شروع ۲۴ پ ق شروع ۲۵ پ ن شروع -

ایضاً۔ فقیر احمد موسیٰ بن مجمل آسیب زدہ پر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اِذْنَ لَكُمْ
اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ۔

ایضاً:- بعض بزرگوں سے نقل ہے کہ ایک لڑکی کھیلتی کھیلتی گر گئی انھوں نے خواب میں
دیکھا کہ ایک فرشتہ بہت اچھی صورت میں آیا اور اس کے دس ہانڈوں میں اور کہا کہ کتاب اللہ
میں اس کی شفا ہے میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یہ آیتیں اس پر پڑھ دو۔ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ
اِذْنَ لَكُمْ سَ تَفْتَرُوْنَ مَکْ یُرْسِلُ عَلَیْکَ مَا تَوَاطَا سَ تَنْصُرُوْنَ مَکْ یَا مَعْشَرَ
الْجِنِّ سَ یَسْطَیْنِ مَکْ قَالَ اُخْسُوْا فِیْہَا وَلَا تَکْمُوْنَ کَنتَہِمْ کہ جاگ کر میں نے
یہ عمل کیا بالکل اثر نہ رہا۔

برائے زخم و نسل وغیرہ | زخم و نسل و عرق النساء اور مسہ اور کھانسی کے لئے تین روز
مک یہ آیتیں پڑھے سوہ فاتحہ۔ وَتَشْرِی الْجِبَالُ تَحِیْبُہَا جَا مَدَہَ سَ تَفْعَلُوْنَ
مَکْ وَیُسْکُوْنُکَ مِّنَ الْجِبَالِ فُجُلٌ یَنْسِفُہَا سَ اُمَّا مَکْ وَ مِثْلُ کَلِمَہِ خَبِیْثَہِ
کَتَجِدَہِ سَ قَدَّ اِیْ مَکَ اَلْمَ تَرَا لِی الَّذِیْنَ خَدَّ جَوَامِیْنِ دِیَا رِہْمُ سَ یَشْعُدُوْنَ مَکْ
اَوْ کَا لَذِی مَرَّ عَلٰی قَدِیْقَہِ سَ قَدِیْقَہِ مَکْ۔ اور آخر میں یہ کہہ دے کہ اے عرق النساء
اور کھانسی اور مسہ بحکم الہی ہو تو مرجا۔

دفع واد | برائے داد اس پر یہ آیت لکھ کر باندھ دی جاو مِثْلُ کَلِمَہِ خَبِیْثَہِ سَ قَدَّ اِیْ مَکْ۔
برائے عرق النساء | ایک منسف یعنی جیل بنایا جائے اور تھوڑی مٹی ایسی زمین سے لے
جس کو دو شریک پانی دیتے ہوں اور نابالغ لڑکی کا کاتاموت سات تار کا پاؤں سے مرلین

۱۔ پٹ پرنس رکوع ۶۷ ایضاً ۷۷ پٹ رحمن رکوع ۲ ۷۷ پٹ رحمن رکوع ۲ ۷۷ پٹ مومنوں آخری رکوع۔

۲۷ پٹ نمل آخر رکوع ۷۷ پٹ لہ رکوع ۷۷ پٹ ابراہیم رکوع ۷۷ پٹ بقرہ رکوع ۲۲ ۷۷ پٹ بقرہ رکوع ۲۵۔

کی کمر تک لے کر اور انگلی کے درمیان تان دیں اور وہ مٹی منسف سے بچا کر مریض سے کہے
 اس پر اپنا پاؤں رکھ لے اور عامل ہاتھ میں چاقو لے کر یہ آیتیں پڑھتا جاوے اور چاقو اس سوت
 کے تاروں پر پھیرتا جاوے اسی طرح سات بار پڑھے سورہ فاتحہ، قل ہوا اللہ، مودتین،
 وَاللّٰهُمَّ اِنَّا وَاحِدٌ سَعَى الرَّحِيْبُ مَسْكَ شَهِدًا ۙ اَللّٰهُ اَمَّا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سَعَى الْعِلْمِ مَسْكَ
 قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ سَعَى قَدْ يَدْرُؤُكَ اَيَةُ الْكُرْسِيِّ اَمِنْ الرَّسُوْلُ اَمْ رَسُوْلُكَ اِنْ
 رَبُّكُمْ اَللّٰهُ الَّذِي سَعَى الْعَالَمِيْنَ تَمَّكَ - سورۃ انا انزلنا پھر کہے الہی اس اسم کی برکت سے
 میرے اس درد کو جسم سے نکال دے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ایضاً:- نابالغ لڑکی کا کاتا ہوا سوت لے کر اس کو بانٹ کر یہ آیت پڑھتا جاوے سات
 گرہ لگائی جائیں اور بائیں بازو پر باندھ دیا جاوے ^{۱۰}وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سَعَى تَلَمُّوْنَ تَمَّكَ
 برائے حفظ وغیرہ | سات اتوار کو بہ ترتیب ذیل آیات لکھ کر ہمارے نکل جائے پہلی اتوار
 کو اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سَعَى اَعْلَمْتُ مَسْكَ کو اَللّٰهُ لَطِيفٌ سَعَى بَعَادَةُ اور چوتھے
 اتوار کو اَلْمَصِّ سَعَى كَهَيْتَقَصِّ سَعَى اَللّٰهُ لَكُمُّ اور پانچویں اتوار کو یسٰی سَعَى خَمْرٌ عَسٰی سَعَى
 اور چھٹے اتوار کو طَسَمَ سَعَى طَسَمَ سَعَى اَلْمَرْءُ اور ساتویں اتوار کو قی سَعَى اِنَّا اِذَا اَرَادْنَا شَيْئًا
 اَنَّا يَقُوْلُ لَكَ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

۱۔ پہ بقرہ رکوع ۱۹ آیت پہ آل عمران رکوع ۲ آیت پہ آل عمران رکوع ۲ آیت پہ بقرہ رکوع ۲۰ آیت پہ اعراف رکوع ۲
 آیت پہ بقرہ رکوع ۱۸ آیت پہ بقرہ رکوع ۲۴ آیت پہ انعام رکوع ۱۵ آیت پہ شوری رکوع ۲ آیت اعراف شروع ۱۸ آیت
 مريم شروع ۱۸ آیت شروع ۳۰ آیت یسین شروع ۲۴ آیت پہ شوری شروع ۱۸ آیت پہ مومن شروع۔
 ۲۔ شعراء شروع ۲۴ آیت پہ نمل شروع ۱۸ آیت پہ رد شروع ۱۸ آیت پہ ق شروع ۱۸ آیت پہ القمر
 شروع ۱۸ آیت یسین آخری رکوع۔

ایضاً: کہی کہتے ہیں کہ میرا لڑکا جو قرآن پڑھتا تھا اور بھول جاتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ایک برتن میں اَلرَّحْمٰنُ سے بِحُسْبَانٍ تک لَا تُحْدِثْ بِہِ لِسَانُكَ سے بِنَا نہ تک بَلْ هُوَ قُرْآنٌ یَّجِیْدٌ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْطٍ لکھ کر زمزم سے دھو کر رطکے کو پلاؤ۔ قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔

ایضاً: جس کو حفظ کرنا مشکل ہو تو وہ الم نشرح دھو کر پیوے انشاء اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی۔

دفع نسیان جانور | جو گائے وغیرہ اپنے بچوں کو نہ پہچانے اور اس لئے دودھ نہ دے تو یہ آیتیں ایک پرچے پر لکھے۔ سورۃ فاتحہ۔ قل ہو اللہ۔ معوذتین۔ وَذَٰلَکَآہَا سے یَا مُکُوْنٌ تک دِاٰنِ مِٔنَ الْحَآدِیۃِ لِمَا یَتَفَجَّرُ مِنْ تَحْلُوْنِ تک پھر تھوڑی مٹی لے کر اس پر فاتحہ سات بار، قل ہو اللہ اور معوذتین ایک ایک بار پڑھ کر تھوڑی سی اس کے نتھننے کی طرف اور باقی گردن کی طرف اور سینہ کی طرف پھونک دے پھر وہ تعویذ اس کے باندھ دے۔

بارش بند کرنے کے لئے | سات کنکریاں پاک ہاتھ میں لے کر ان پر سورۃ فاتحہ اور یہ آیت رَقِیْلَ یَا اَرْضُ اَنْبَلِیْ مَآءِکِ سے اَللّٰمِیْنِ تک سات بار پڑھ کر ایسی جگہ رکھ دے جہاں ان پر بارش نہ پہنچے فوراً بارش بند ہو جائے گی پھر جب بارش ہونا چاہو ان کنکریوں کو آب جاری میں ڈال دو۔

دفع ٹڈیاں | دفع طغ و موش وغیرہ ازراعت و درخت کے سلسلے میں فقیر ابراہیم علی

لہ پُا الرحمن شروع ۵۰ پُا قیامتہ رکوع ۱۳۵ تا بروج ۵۰ یسین پُا رکوع آخر۔

۵۰ پُا بقرہ رکوع ۹۰ تا پُا ہود رکوع ۴

سے منقول ہے کہ نو ٹڈیاں پکڑ کر ان کے بازوؤں پر یہ نو آیتیں لکھے ایک آیت ایک ٹڈی کے بازو پر انشاء اللہ تعالیٰ سب دفع ہو جائیں۔

اول :- قَسِيْفَيْنِ مِمَّا فَلَاحَ وَهُوَ السَّيِّعُ الْغِيْثُ۔

دوم :- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

سوم :- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَدْعٰى اللّٰهَ

چہارم :- تَمَّ النُّصْرُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قَلْبَهُمْ لَآئِهِمْ قَوْمًا لَا يَفْقَهُوْنَ

پنجم :- وَحِیْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

ششم :- اِنِّیْۤ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ

ہفتم :- صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْۤ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ

ہشتم :- یَوْمَیْذٍ یَّتَّبِعُوْنَ الدّٰعِیَ لَا عَوْجَ لَهَا

نہم :- وَ مَا یَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ۔ وَ مَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِۤ اِلَّا کَلَمَحٍ الْبَصَرِ

اَوْ هُوَۤ اَقْرَبُ۔

ایضاً :- یہ آیت چار پرچوں پر لکھ کر اس جگہ چار گوشوں میں لٹکا دی جائے وَ اِذَا تَوَلّٰی سَعٰی فِی الْاَرْضِ مِنَ الْفَسَادِ تَمَک۔

دفع پرندگان | دفع پرندگان خوردہ۔ زراعت وغیرہ کے لیے یہ آیت چار پرچوں پر لکھ کر

اس جگہ کے چار گوشوں پر لٹکائی جائے یٰۤاَهْلَیْۤ اَنْحٰلٍ یَّتْرَبْ لَا مُقَامَ لَکُمْ فَاَرْجِعُوْا۔

برائے دفع موش | سورہ تبت لکھے اس کے بعد یہ لکھے :- اَیُّهَا الَّذِیْۤ اَرْحَلْ عَنَّا فَاِنَّ

لہ پ بقرہ رکوع ۱۱ لہ پ آل عمران رکوع ۱۸ لہ پ احقاف آخر لہ پ ببا آخر لہ پ توبہ آخر لہ پ نحل شروع لہ پ نمل آخر لہ پ النحل رکوع ۶ لہ پ مدثر رکوع ۱۸ لہ پ نحل رکوع ۱۱

لہ پ بقرہ رکوع ۲۵ لہ پ احزاب رکوع ۲

قُلُوبًا حَسْبِنَا

قُلُوبًا حَسْبِنَا

قُلُوبًا حَسْبِنَا

قُلُوبًا حَسْبِنَا

ایضاً: سورہ لم یکن پاک برتن میں لکھ کر دھو کر تین روز تک پیوے۔
ایضاً: دَمْنٌ یُخْرِجُ مِنْ بَیْتِہِ دَجِیْمًا تک کسی برتن میں لکھ کر گھی سے مٹا

کر مسحور سات روز با وضو زبان سے چائے

ایضاً: تین بیٹھے پانی میں جوش دے کر پوست اتار کر ایک پر قال مومی ما جنتہ
یہ السحور سے اَلْمُفْسِدِیْنَ تک اور دگر پر اَدَلَمَ یَدَا الَّذِیْنَ سے یَوْمَ مِوُنَ تک در تیسرے
پر وَقَدْ مَنَا مَا عَمِلُوا سے مَشُوْرًا تک لکھ کر کھلائے۔

برائے در دوزخ ہریش | تھوڑا روغن کنبہ لے کر ہیش کے موقع پر رکھ کر یہ آیتیں پڑھے
آیۃ الکرسی تین بار اَدَلَمَ یَدَا مَرَعٰی قَدِیْمَہ سے قَدِیْمَہ تک تین بار وَکُوْرًا
قَدْ اَنَا سَیْدَتِ یَہِ الْجِبَالِ سے اَلْمِیْعَادَہ تک تین بار وَیَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ
یَنْسِفُہَا سے اَمَّا تک تین بار وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہِمْ سَدًّا سے اَلْاَیْبِیْمُوْنَ
تک اِنَّا مِّنْ سُلَیْمٰنَ سے مُسْلِیْمٰنَ تک تین تین بار وَالْفَضٰی۔ الم شرح۔ قل ہوا اللہ
معوذتین تین بار اَدھامل نہ پڑھنے پاوے گا کہ آرام ہونا شروع ہوگا۔

حفاظت مال و متاع از ظالمات | اگر زمین کی پیمائش ہوتے وقت یہ اندیشہ ہو کہ
محصول زیادہ لگا دیا جاوے گا تو اس عمل سے زمین پیمائش میں گھٹ جاتی ہے یہ
چار آیتیں چار پرچوں پر لکھ کر چاروں گوشوں میں دفن کر دی جائیں۔

اول: اَدَلَمَ یَدَا اِنَّا نَاقِی الْاَرْضَ نَقْصُہَا مِنْ اَلْہَدَافِہَا

دوم: یَوْمَ نَطْوِی السَّمَآءَ کَطِیِّ السَّجِّیْلِ لِلْکُتُبِ

۱۵ پتہ نساہ رکوع ۱۲ ۱۵ پتہ یونس رکوع ۸ ۱۵ پتہ انبیاء رکوع ۲ ۱۵ پتہ فرقان رکوع ۲ ۱۵ پتہ بقرہ رکوع ۲۴

۱۵ پتہ مدثر رکوع ۳ ۱۵ پتہ طہ رکوع ۶ ۱۵ پتہ یس رکوع ۱۵ ۱۵ پتہ انش رکوع ۱۵ ۱۵ پتہ زمرہ رکوع ۱۵ ۱۵ پتہ انبیاء رکوع ۲۴

سوم: اَلَمْ تَرَ اِیَّیْكَ کَیْفَ مَدَّ الْغُلَّ وَکَوْشَاۤءَ لَجَعَلْنَا سَاکِنًا
 چہارم: وَهَآءِذَا قَدْ دُوِّیَ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرُہٗ سَیُثْرِ حُوتٍ تک اور دفن کرتے وقت
 یہ پرجے کپڑے میں لپیٹے ہوئے چاہئیں اور جب کام ہو چکے فوراً نکال لینا چاہئے تاکہ
 کلام الہی کی بے ادبی نہ ہو۔

ایضاً: اسی طرح اگر ظالموں سے خوف ہو کہ زمین کے متعلق کچھ ظلم کریں گے تو پانچ پتھر
 لے کر ان پر سورہ فاتحہ سات بار قل ہو اللہ تین تین بار معوذتین تین بار تمام سورہ تبارک
 الذی تمام آیۃ الکرسی دس بار درود شریف پڑھا کر دم کر کے چاروں پتھر اس زمین
 کے چاروں گوشوں میں اور ایک پتھر وسط میں دفن کر دو ان سے کوئی اثر نہ پہنچے گا۔
 زمین و درخت کی سیرابی کے لئے زمین و درخت کی سیرابی کے لئے ایک فصل نہ ہو
 ٹھیکری پر یہ آیت وَجَعَلْنَا الْاَرْضَ عَیُونًا فَانْتَبٰی الْمَآءُ عَلٰی اَمْرِیْ قَدْ دَلَّکُمْ کہ
 اور آنکھ بند کر کے وہ ٹھیکری اس زمین میں ڈال دو کہ اس کے گرنے کی جگہ نظر نہ آئے
 انشاء اللہ تعالیٰ بارش ہوگی۔

دختوں میں پتے پھیل لانے کے لئے بنی ہاشم میں سے ایک شخص کا قول ہے کہ
 میں نے سورہ فاتحہ تمام و کمال لکھی اور مالک یوم الدین سات دفعہ لکھا اور اس کو دھو
 کر ایسے درختوں میں چھڑکا جو کئی سال سے بے برگ و ثمر ہو گئے تھے خدائے تعالیٰ
 کے فضل سے بہت جلدی ان میں پتے آگئے تھے اور پھل آنے لگے۔

قضاے حاجت | ابن سیرینؒ سے منقول ہے کہ ہم کسی سفر میں تھے ایک نہریں
 مقام ہوا لوگوں نے ڈرایا کہ یہاں لٹ جاتے ہیں میرے سب رفیق وہاں سے چل دئے

۱۵ پک فرقان رکوع ۴ ۱۶ پک زمر رکوع ۵ ۱۷ پک قمر رکوع ۱

مگر میں چونکہ آیاتِ حُرّ پڑھا کرتا تھا اس لئے وہاں ٹھہرا رہا جب رات ہوئی ابھی سونے نہ پایا تھا کہ چند آدمی شمشیر بکھٹ آگئے مگر مجھ تک نہ پہنچ سکتے تھے جب صبح کو وہاں سے چلا ایک شخص گھوڑے پر سوار ملا اور مجھ سے کہا کہ ہم لوگ شب میں سو بار سے تِرا مُتیرے پاس گئے مگر درمیان میں ایک آہنی دیوار حاصل ہو جاتی تھی میں نے کہا یہ ان آیات کی برکت ہے اس شخص نے کہا وہ کونسی ہیں اور عہد کیا کہ اب یہ کام نہ کروں گا، آیات یہ ہیں سورۃ بقرہ کی شروع کی چار آیتیں المفلحون تک۔ آیتہ الکرسی اور دو آیتیں آیتہ الکرسی کے بعد تین آیتیں آخر سورۃ بقرہ کی بِدَا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سے ختم سورت تک تین آیتیں سورۃ اعراف کی اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ سَرٰحَ الْبَحْرِ وَرَبَّ السَّيْلِ اِنْ تَدْعُوْهُ لَخَرِّدَنَّكُمْ سورت تک اور اوّل صفات سے لَا يَزِيْزُكُمْ اُوْدُنُ الْكَافِرِيْنَ سورت تک اور دو آیتیں سورۃ الرحمن کی يٰۤاَيُّهَا الْمُدْحَضُوْنَ سورت سے تَنْتَفِحُوْنَ اِنْ تَكُنْ اَوَّلُ الْاَوَّلِيْنَ سورت تک اور چار آیتیں آخر سورۃ حشر کی كُوْنَا اَنْزَلْنٰكَ سورت تک اور دو آیتیں قُلْ اُدْحِجْ اِلٰى سَعْدٍ كَدَّ اَتَمَّكُ يٰۤاَيُّهَا الْمُدْحَضُوْنَ سورت تک ان کے پڑھنے سے آسیب ورنہ اور چور اور ہر قسم کی بلا و آفت دفع ہو جاتی ہے کہا گیا ہے کہ ان میں سو بیماریوں سے شفا ہے۔ محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بوڑھے کو فالج ہو گیا تھا اس پر یہ آیتیں پڑھیں اس کو شفا ہو گئی۔

ابيضاً: محمد بن دستوریہ سے منقول ہے کہ میں نے امام شافعیؒ کی بیاض میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ یہ نماز حاجت ہزار حاجت کے واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے کسی عابد کو سکھائی تھی دو رکعت نفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں اعراف رکوع، سورۃ بنی اسرائیل آخر سورۃ پڑھیں صافات شروع رکوع پڑھیں الرحمن رکوع پڑھیں حشر آخر

ایک بار، قل یا ایہا الکفرون دس بار اور دوسری میں فاتحہ ایک بار اور قل ہو اللہ گیارہ بار پھر سلام پھیر کر سجدے میں جائے اور اس میں دس بار درود شریف اور دس بار سبحان والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور دس بار رَبِّیْ اَتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پڑھ کر اپنی حاجت مانگے حکیم ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عابد کے پاس قاصد بھیجا کہ مجھ کو یہ نماز سکھا دے انھوں نے بتلادی میں نے پڑھ کر علم و حکمت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ہزار حاجتیں پوری ہوئیں حکیم مدوح فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھنا چاہے شب جمعہ میں غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے اور آخر شب میں بنیت قضاے حاجت پڑھے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری ہو۔

خواص حروف تہجی | بعض خواص حروف تہجی، حروف چار قسم کے ہیں۔ گرم، سرد، تر خشک۔ گرم یہ ہیں: ا ہ ط م ق ش ذ مجموعہ اھطھ فشن ہے اور سرد یہ ہیں: ج ذک س ق م ت ظ جن کا مجموعہ ج ذ کس ق شظ ہے اور تر یہ ہیں: د ح ل ع ر خ غ۔ مجموعہ اس کا د حل ع ر خ غ ہے۔ اور خشک یہ ہیں: ی و ن ص ق ض مجموعہ ان کا یہ بوین ص ق ض ہے۔ طریق ان کے استعمال کا یہ ہے کہ مثلاً سردی کا دفع کرنا مقصود ہے تو سرد حروف کے مجموعہ کو اس قدر پڑھے کہ سردی دفع ہو اسی طرح باقی حروف کو سمجھ لیا جاوے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امراض کے اسباب صحیح تشخیص ہو جائیں سردی سے یا رطوبت سے یا یبوست سے تو ان حروف سے معالجہ ہونا ممکن ہے چونکہ یہ حروف قرآنی بھی ہیں اس لیے اس مقام میں ان کو دکھا گیا۔

دفع وساوس | امام غزالی نے ایک بزرگ سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ایک عورت پر میری نظر پڑ گئی اس سے ایسی بے چینی ہوئی کہ تمام شب نیند نہ آئی آخر شب میں خفیف سی نیند آئی تو ایک کتنے والے نے کہا کہ یہ آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو۔ **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** سے **مَا يَشَاءُ اللَّهُ** یا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا** سے **الَّذِينَ كَفَرُوا** تک۔ میں نے ایسا ہی کیا پس ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے قید سے رہا کر دیا۔

ایضاً: جس کی نسبت کسی عورت پر مفتون ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی شخص کسی کو بہکا سکھا کر خراب کرنا چاہتا ہو اس پر یہ پڑھنا چاہئے یا لکھ کر باندھنا چاہئے

رَبِّ أَصَوِّفْ عَنِّي الشُّوَّءَ وَالْفَحْشَاءَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ۔

ایضاً: جس پر کوئی سال یا دار و قوی غالب ہو جس سے تلف ہونے کا اندیشہ ہو وہ پڑھے **وَلَمَّا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ** سے **أَلْعَلَّيْتُ** تک **إِنَّ اللَّهَ يُسَيِّدُ السَّمَوَاتِ** سے **عَرْشُهُ** تک۔

ایضاً: جس کو نماز میں وسوسہ آتا ہو یا بُرے خواب دیکھتا ہو یہ آیت **وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَتَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِيثَاقَهُ** سے **الصُّدُودِ** تک شیشہ یا سنگ مرمر کے برتن میں لکھ کر پاک پانی سے دھو کر تین روز متواتر پٹے انشاء اللہ دفع ہو جائے گا۔

دفع خوف | امام اوزاعی سے منقول ہے کہ ایک بھوت میرے سامنے آگیا میں ٹرا اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا وہ بولا کہ تُو نے بڑے کی پناہ مانگی اور یہ کہہ کر مٹ گیا۔

ایضاً: برائے دفع خوف ابن کلبی سے منقول ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کی دھمکی

ملھ پڑا ابراہیم رکوع ۴ ملھ پڑا انفال رکوع ۲ ملھ پڑا انعام رکوع ۳ ملھ فاطر رکوع ۳ آخر ۵۵ حوالہ نہیں ملے پڑا مدھ ۵۵

دی اس کو اندیشہ ہوا اُس نے کسی عالم سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ گھر سے بھٹکنے کے قبل سورہ یسین پڑھ لیا کر پھر گھر سے نکلا کر وہ شخص ایسا ہی کرتا تھا اور اپنے دشمن کے رو برو آتا تھا اس کو ہرگز نظر نہ آتا۔

دفع جن | ابن قتیبہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں بصرہ میں خرما کی تجارت کرنے کے لئے گیا کرایہ پر کوئی گھر نہ ملا صرف ایک گھر ملا، جس میں مکوٹی نے بالے لگا رکھے تھے میں نے اس کی وجہ پوچھی لوگوں نے کہا اس میں جن رہتا ہے میں نے مالک سے کرایہ پر مانگا اس نے کہا کیوں اپنی جان کھوتے ہو اس میں بڑا بھاری جن رہتا ہے، جو شخص اس میں رہتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے میں نے کہا مجھے کرایہ پر دے دو اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اس نے دے دیا میں اس میں ٹھہر گیا جب رات ہوئی میری طرف ایک سیاہ فام جس کی آنکھیں شعلہ آتش کی مثال روشن تھیں آیا میں نے آیۃ الکرسی پڑھنا شروع کی وہ بھی برابر پڑھتا رہا جب میں **وَلَا يَزُودُهَا حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** پر پہنچا وہ نہ کہہ سکا میں نے اسی کو کہنا شروع کیا پس وہ تارکی سی جاتی رہی اور رات بھر آرام سے رہا جب صبح ہوئی اس جگہ نشان جلنے کا اور راکھ دیکھی اور کہنے والے کی آواز سنی کہ تو نے بڑے بھاری جن کو بلایا میں نے پوچھا کس چیز سے جل گیا جواب دیا اس کلمہ سے **وَلَا يَزُودُهَا حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** ایضاً۔ ابن قتیبہ سے منقول ہے کہ ایک مصری نے مجھ سے بیان کیا کہ میں کسی عرب کے پاس اُترا اس نے میری خاطر مدارات کی، اس کے بعد جب وہ بستر پر لیٹا دفعۃً چیخ کر کھڑا ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ معلوم ہوا کہ جب سونے کو بستر پر لیٹتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے میں نے یہ آیتیں پڑھیں **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** الخ پھر بھی اس پر اثر نہ ہوا۔

دفع داد | ایک تنگا لے کر اس میں یہ آیت تین بار پڑھ کر تین گرہ لگا دے اور وہ تنگا مریض کے باندھ دیا جاوے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ سَعْدٌ قَرَارٌ تَمَّک۔

برائے مفلوج | ابن قتیبہ نے ایک مفلوج سے نقل کیا ہے کہ میں نے زمزم کے پانی سے دوا درست کر کے اور اس سے ایک برتن میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور آخر سورہ شہر کی آیات هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ سے ختم سورت تک اور نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ لہ پانچ بار رکوع ۵۶ پ آں عزون رکوع ۵۳ پ مومنون رکوع ۵۲ پ ابراہیم رکوع ۵۱ پ اہی اسرائیل رکوع ۱

سے یٰسُوْمِنِیْنَ تک لکھ کر زم زم سے دھو کر پی لی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔
دفع گنجاپن | کسی گنچے پر یہ آیت پڑھ کر تھنکار دیا گیا تھا وہ اچھا ہو گیا۔ نَزَّلَ مِنْ
 الْقُدَانِ سے یٰسُوْمِنِیْنَ تک۔

دفع عسر البول و پتھری نکلنے کے لئے | ابن کلبی سے روایت ہے اصبرہان میں کسی بزرگ
 کو عسر البول کی بیماری ہو گئی تھی انھوں نے یہ لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -
 بُسِّتِ الْجِبَالُ بَآءٌ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُلَّتَا دُكَّةً
 وَابْدَاَ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ قَدَتِ الْوَاتِعَةُ وَاِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِیْ یَوْمَئِذٍ وَاِیْہِیۡتُ اُور
 پانی سے دھو کر پتھری نکل گئی اور باسانی پیشاب کھل گیا۔

ایضاً: یہ آیت لکھ کر پیو یا اِذَا اسْتَسْقٰی مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَمُغْسِدِیْنِ تَمَك
دفع نکسیر | کسی عورت کی نکسیر جاری ہو گئی تھی ایک بزرگ نے یہ آیتیں لکھ کر بندھوا
 دی تھیں وَ قِیْلَ یٰۤاَرْضُ بِلٰغِیْ مَآءِکِ مِنَ التَّلٰوِیۡنِ تَمَك قُلْ اَرَاۤاَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ
 مَآءُکُمْ غَوْرًا مِّنْ مَّعِیۡنِ تَمَك ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آیات مذکورہ مسلسل
 البول کو بھی نہیں ہیں۔

پیشاب جاری ہونے کیلئے | ابن کلبی نے لکھا ہے کہ کسی شخص کا پیشاب رک گیا ایک
 فاضل نے یہ آیت لکھ کر باندھ دی شفا ہو گئی۔ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِہٖ
 قَدْ قُدَّ تَمَك۔

۱۷ پ بنی اسرائیل رکوع ۹۷ پ واقعہ رکوع ۱۷۷ پ الحاقہ رکوع ۱۷۸ پ بقرہ رکوع ۱
 ۱۷۸ پ ہود رکوع ۲۷۸ پ ایک پ رکوع آخر ۷۷ پ قر رکوع ۱

حافظہ و انبساط نفس و راحت | اَمِنْ الرَّسُولِ سَے آخر سورت تک برتن میں پاک پانی سے لکھ کر شیریں کنوئیں کے پانی سے جس پر دھوپ نہ آتی ہو دھو کر نہار منہ پیوے تو حافظہ قوی ہو اور نفس میں انبساط پیدا ہو اور دشمن سے راحت ہو اور ظالموں سے کفایت ہو جو اس کو اکثر بکثرت پڑھا کرے تمام گرائیوں سے سبک دوش رہے اور قرض ادا ہو، حسن یقین عنایت ہو۔

اصلاح قلب و نفس | لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ سَے صِدِّیقِیْنِ تک نجیل کے کپڑے پر شک و ظہاب سے لکھ کر پانی سے دھو کر اس کو پلایا جاوے اس کا بخل جاتا رہے گا۔
دفع شک و شبہ و روین | اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَذْكُرُوْا يٰۤاَعْقُوْدَ سَے مَا يُوْدُّ الشَّيْطٰنُ اس کو کسی برتن میں لکھ کر اور آتش نار سیدہ سے شہدے دھو کر جو شخص وہ شہد کھاوے اس کے قلب سے شک و شبہ وین میں جاتا رہے اور اتباع حق و صحت اعتقاد نصیب ہو۔

دفع شراب خوری و سود خوری | حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْمَيْمَتَةُ سَے دُنْيَا تک بارش کے پانی پر ان آیات کو شب جمعہ میں بعد نماز عشاء با وضو پڑھ کر اس پانی سے قدرے آرد گندم گوندھ کر اس کی روٹی پکا کر چار حصے کر لے تین حصے مسکینوں کے لیے دے اور ایک ٹکڑا خود کھاوے تین شب متواتر ایسا کرنے سے اکل حرام اور غصب اور اخذ مال یتیم اور سود اور شراب خوری سے نفرت اور توبہ نصیب ہو۔

برائے و سوسہ | وَاذْكُرُوْا اِنِّمَّةَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَ مِثْقَالَ حَبِّ رِيْبَةٍ تَحْمَلُوْنَ سَے شیشہ یا سنگ مرمر کے برتن میں لکھ کر اور پاک پانی سے دھو کر تین لے پتھر آخر لے پتھر آل عمران رکوع ۱۰ لے پتھر شروع لکھ پتھر مائدہ رکوع ۱۵ لے پتھر مائدہ رکوع ۲

درستی زمین و زبان | وَكُنَّا تَمَّامًا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ آدَامُ سَعْيِيهِمِ

جس کا ذہن بگڑ گیا ہو یا تقریر میں مضمون کی آمد نہ ہو تو یہ آیتیں کندہ پر پڑھ کر اور نصف
 مثقال شہد یا شکر میں ملا کر کھایا کرے ذہن بھی اچھا ہو جاوے اور آمد مضمون کی خوب ہو۔
اور ارخوان | رسا ص اسود یعنی سیسہ کی تختی پر یہ آیت وَهِيَ تَجْوِي بِهَيْمَةٍ مِّنْ مَّوْجٍ
 کائنات سے آنکا ذیون تک لکھ کر اور جس کے لئے یہ عمل کیا جاوے اس کا نام مع
 اس کی والدہ کے لکھ کر اس تختی کو پانی جاری میں ڈال دے جب روکنا ہو نکال لے۔
بچہ کا روتا و دشمن کی زبان بندی وغیرہ | وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
 تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ہرن کی جھلی پر لکھ کر تانبے کی نلکی میں رکھ کر بازو پر باندھنے سے
 دشمن کی زبان بند ہو اور جو بچہ بہت روتا ہو اس کے باندھنے سے روتا موقوف ہو اور
 آواز اس کی اچھی ہو جاوے اور علاوہ اعمال مذکورہ کے کتاب موصوف فی الخطبہ میں
 بہت سے اعمال موجود ہیں مگر بعض تو حصہ دوم اعمال قرآنی میں مذکور ہو چکے ہیں اور
 بعض جو غیر مذکور ہیں مگر جن اغراض کے لئے دوسرے اعمال مذکور ہو چکے ہیں ان
 کے اغراض بھی وہی تھے اسی لئے اسی قدر لکھنے پر اکتفا کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا
 کہ اعمال القول الجمیل سے آخر میں اضافہ کر دیے جائیں اور اس کے بعد حسب وعدہ
 دیباچہ خواص اسماء حسنی لکھ کر سالہ شتم کر دیا جائے، اب یہاں سے القول الجمیل کے
 بعض اعمال شروع ہوتے ہیں۔

کشائش رزق ظاہری و باطنی | والد مرشد قدس سرہ نے مجھ کو وصیت کی یا مَفْنٰی
 کی مواظبت کی ہر دن گیارہ سو بار اور سورہ مزمل پڑھنے کو چالیس بار سو اگر نہ ہو سکے
 تو گیارہ بار اور فرمایا کہ دونوں عمل غنائے دلی اور ظاہری دونوں کے واسطے مجرب ہیں اور

فجہ کو وصیت کی درود کی ہمیشگی پر ہر روز۔ اور فرمایا کہ اسی سبب سے ہم نے پایا جو پایا۔
برائے گزیدن سگ دیوانہ | اور میں نے سنا انھیں حضرت سے فرماتے تھے کہ
 جس کو باؤ لاکتا کاٹے اور اس کے دیوانہ ہونے کا خوف ہو تو اس آیت کو روٹی کے
 چالیس ٹکڑوں پر لکھے۔ اِنَّهُ يَكِيدُ ذَنْ سَعْدٍ اَتَمَّكَ اور اس سے کہے کہ
 ہر دن ایک ٹکڑا کھایا کرے۔

برائے حفظ چھپک | اور میں نے حضرت والد صاحب سے سنا فرماتے تھے کہ
 جب چھپک کی بیماری ظاہر ہو تو نیلا تاگالے اور پرمورہ رحمن پڑھے اور جے بار کہ
 قِيَامِي اَلَا رَيْبُكُمْ مِّنْ بَنٍ پر پہنچے ایک گروہ دے اور اس پر پھونک ڈال
 دے اور تاگے کو لڑکے کی گردن میں باندھ دے حق تعالیٰ اس کو اس بیماری سے
 آرام دے گا۔

برائے آسیب زدہ | اور جس کو شیطان باؤ لاکر ڈالے یعنی جس پر آسیب کا اثر ہو تو
 اس کے بائیں کان میں یہ آیت سات بار پڑھے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَنْفَتْنَا عَنْ
 كُوسِيَّتِهِ جَسَدًا اَنَّا بَا وِرْدِ فِ اَسِيْبٍ كَا يَهْيِي عَمَلٍ هَبْ كَ اس كَ اس كَ اس
 مرتبہ اذان دے اور سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی
 اور سورہ طارق یعنی السَّامُ وَالطَّارِقُ اور سورہ حشر کی آیتیں هُوَ اللّٰهُ الَّذِي سَعِ اَخِر
 سورت تک صَفَتْ ساری پڑھے آسیب جل جاوے۔

ابضاً۔ پانی پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور پانچ آیتیں اول سورہ جن کی یعنی
 قُلْ اُدْحِیْ سَكِنًا بَا سَمَكٍ پڑھے اور اس پانی کا اس کے منہ پر چھینٹا مارے کہ ہوش ہل جائیگا۔

لے پٹ طارق آخرت پٹ رحمن پوری سہ پٹ صافات دکر ۲ سہ پٹ حشر دکر آخرت پٹ صافات پوری

اور جب کسی کے مکان میں جن معلوم ہو اسی پانی سے اس کے مکان کے کونوں میں چھتے مارے
تو وہاں پر پھر نہ آئے گا۔

برائے دفع جن | برائے واپسی مفروز ہونے شیطان کے گھر سے اور پھر پھینکنے کے یہ
آیت پڑھے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ لَكَ دُوْدًا اِنَّكَ بِاَرْْصَادٍ عَلٰیہُمْ اَشْفٰیءٌ
پچیس بار پڑھے پھر ان کو گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دے۔

برائے عقیقہ | ہاتھ عورت کے واسطے ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت
لکھے کُوْنَا نَافِلُوْنَ سَيِّئَاتٍ مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِیْ لَا مَرْجِعَ لَہُمْ پھر اس تعویذ کو اس کی گردن
میں باندھے۔

ایضاً: برائے عقیقہ چالیس لوگوں پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے اُوْ
کَفَّلْتُ فِیْ بَحْرِ لَیْلِیْ لَمَّا نُوْرًا فَاَلْہَمْنِیْ نُوْرًا تَمْلِکُ اَوَّلَیْہِمْ اَوَّلَیْہِمْ اَوَّلَیْہِمْ
اور شروع کرے حیض کے غسل ہونے سے اور ان دنوں میں اس کا زوج اس سے
صحبت کرتا رہے۔

ف: مولانا نے فرمایا اور شرط اس عمل کی یہ ہے کہ لوگ رات کو کھاوے اور اس پر پانی
نہ پئے۔

برائے استقاط جنین | جو عورت بچہ استقاط کر دیتی ہے ایک تا گاکسم کارنگا ہوا
اس کے قد کے برابر لے اور اس پر تو گرہیں لگا دے اور ہر گرہ پر دُعا اَصْبِرْ وَمَا
صَبْرُکَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ سے ہُمُ مُحْسِنُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْہَا اِنَّہَا اَلْکَافِرُوْنَ پڑھے اور بچہ نکے۔
لوٹکا ہونے کے لئے | اور جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو تو حمل پر تین مہینہ

۱۔ پتہ طارق رکوع ۱۵ پتہ رعد رکوع ۳۴ پتہ نور رکوع ۵۵ پتہ نخل آخر

گزرنے سے پہلے ہر کی جھلی میں زعفران اور گلاب سے اس آیت کو لکھے **اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ ۚ السُّبْحَانَ ۚ** اور اس آیت کو لکھے **يَا كَرِيمًا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَدَيْنَ قَبْلُ سَمِيًّا** پھر یہ لکھے بحق مریم و عیسیٰ ابن ماریہ طویل العمر بحق و حمد و آلہ۔ پھر اس تعویذ کو حاملہ کے باندھے رہے۔

برائے زندگی اولاد | اور اس نے جس پر اعتماد ہے خبر دی ہے کہ جس عورت کا لڑکا زندہ نہ رہتا ہو تو اجوائن اور کالی مرچ لے دونوں چیزوں پر دوشنبہ کے روز دوپہر کو چالیس بار سورہ دھاس پڑھے ہر بار درود پڑھ کر شروع کرے اور اسی پر ختم کرے اس کو ہر روز عورت کھایا کرے حمل کے دن سے لڑکے کے دودھ پڑانے تک۔

برائے فرزند زریتمہ | یہ بھی اسی معتقد شخص نے مجھ کو خبر دی کہ جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہو تو اس کے پیٹ پر گول لکیر کھینچے اور ستر بار انگلی پھیرنے کے ساتھ **يَا مَتِّينُ** کہے برائے بروہ گریختہ | اگر تیرا غلام بھاگ گیا ہو تو ایک کاغذ میں لکھ کر اور اس کو کسی چیز میں لپیٹ کر اندھیری کوٹھری میں دوپتھروں کے بیچ میں رکھ دے یعنی سورہ فاتحہ اور آیہ الکرسی کو لکھ کر پھر **اللَّهُمَّ سَيِّدَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ** تک لکھ کر پھر یہ آیت لکھے۔ **أَوْ كُتِبَتْ فِي جُودِجِي تَغْنِي عَنْهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نَصْرًا لَّنَا فَمَا لَهُ مِن نُّصْرٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ بَرَزُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْمُبْعَثِ ۚ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۚ وَاللَّهُ مِّنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ۚ بَلْ هُوَ قَدْرٌ أَن تَعْبُدَ فِي تَوْحٍ تَحْفَظُ بِهٍ دَعَا پڑھے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ إِلَىٰ مَوْلَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ**۔**

ضمیمہ

آثارِ ربیانی

ملقب بہ

اسرارِ اسمائے ربانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد الحمد والصلوة۔ اسماء الہیہ کی چند خاصیتیں بحیثیتِ ضمیمہ آثارِ ربیانی لکھی گئی ہیں۔ ان اسماء کے جملہ خواص اور ان سے متعلق بعض نکات اور یہ کہ بندہ کو ان سے کس طرح استفادہ کرنا چاہئے جس سے تخلق یا خلاق اللہ کی دولت نصیب ہو، ان تمام امور کا بیان رسالہ اورادِ رحمانی میں ہو چکا ہے۔ یہاں صرف بعض خواص مذکور ہیں۔ کمالِ یقین آسانی مطلوب شفاۓ مرہق | اللہ!۔ خاصیت، جو شخص ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو کمالِ یقین نصیب فرماوے۔ اور جو شخص جمعہ کے روز قبل نماز جمعہ پاک صاف ہو کر خلوت میں دو سو بار پڑھے اس کا مطلب آسان ہو خواہ کیسا ہی مشکل ہو اور جس مرہق کے علاج سے الہیاء عاجز آگئے ہوں اس پر پڑھا جاوے

تو اچھا ہو جاوے بشرطیکہ موت کا وقت نہ آگیا ہو۔

دفع نسیان وغفلت وحفظ | **الرَّحْمَنُ** :- خاصیت، ہر نماز کے بعد ستر بار پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دفع

ہو اور بکثرت اس کا ذکر کرنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہے اور اگر اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی محفوظ جگہ کسی بدخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا اور ترحم اور مسکنت پیدا ہو۔

رقت قلب | **الرَّحِيمُ** :- خاصیت، جو شخص روزانہ سو بار پڑھے اس کے قلب میں رقت اور شفقت پیدا ہو اور کسی امر ناگوار کا اندیشہ نہ ہو۔

برائے برکت و رحمت | **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** :- خاصیت، اس کی کثرت پھل و محبت وغیرہ کرے یا لکھ کر باندھے اور اگر اس کو لکھ کر پانی سے

دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں اس کے پھل میں برکت پیدا ہو اور اگر کسی کو گھول کر پلاوے اس کے دل میں کاتب کی محبت پیدا ہو اسی طرح اگر طالب مطلوب کا نام مع ان کی والدہ کے لکھے مطلوب اس کی محبت میں سرگرداں ہو بشرطیکہ جائز محبت ہو۔

صفائی قلب و غناء | **الْمَدِيدُ** :- خاصیت، جو شخص زوال کے وقت ایک سو بیس بار پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غناء و عطا فرمائیں خواہ غناء ظاہری ہو یا غناء باطنی۔

امن از آفات و توفیق عبادت | **الْقُدُّوسُ** :- خاصیت، بعد نماز جمعہ کے ۱۸۵ بار **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذَبَّ النَّجَسَ وَالرُّوحِ** کہہ کر اس کو ایک روٹی

پر لکھ کر جو شخص کھاوے تمام آفات سے سالم رہے اور توفیق عبادت نصیب ہو۔
شفاء بیمار | **اَلسَّلاَمُ** :- خاصیت، اگر مرین کے پاس اس کے سر ہاتھ
 بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو ۳۶ بار اتنی آواز سے کہ مرین بھی سُن لے پڑھیں
 انشاء اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو۔

امن وامان | **اَلْمُؤْمِنُ** :- خاصیت، جو بکثرت اس کا ذکر کرے اس کو امن
 اور قوت ایمان عطا ہو اور اگر خوف زدہ ہو اس کو ۳۶ بار کہے اپنی جان و مال میں یمن
 رہے۔

علوہمت | **اَلْمُهَيِّمُ** :- خاصیت، غسل کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر سو
 بار خلوت میں بجنور قلب پڑھیں تو عالی ہمتی پیدا ہو۔

عزت و غنا | **اَلْعَزِيزُ** :- خاصیت، چالیس روز تک ہر روز اکتالیس
 بار پڑھیں غناء ظاہری یا باطنی اور عزت نصیب ہو اور کسی مخلوق کا محتاج نہ ہو۔
حفاظت از شر ظالمان | **اَلْجَبَّارُ** :- خاصیت، صبح و شام ۳۶ بار پڑھے
 تو ظالموں کے شر سے محفوظ رہے۔

حصول بزرگی و برکت اولاد سعید | **اَلْمُنْتَحِيزُ** :- خاصیت، بکثرت اس کے
 پڑھنے سے بزرگی اور برکت حاصل ہو اور شب زفاف میں بی بی کے پاس جا کر قبل
 مباشرت دس بار ذکر کرے تو اولاد فرینہ نیک بخت پیدا ہو۔

حفاظت از آفات | **اَلْخَالِقُ** :- خاصیت، سات روز متواتر روزانہ
 سو بار پڑھے تو تمام آفات سے سالم رہے۔

صنائع عجیبہ و قرائل | **اَلْبَارِئُ** :- خاصیت، بکثرت اس کا ذکر کرنے

سے منافع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو اور اگر بالآخر عورت سات روز تک روزہ رکھے اور پانی سے افطار کرے اور بعد افطار کے ۲ بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے اور اولاد ہو۔
مَغْفَرَتُ دَفْعِ تَنَگِ رِزْقِ | الْخَفَادُ :- خاصیت، بعد نماز جمعہ سو بار پڑھے تو آئندہ مغفرت پیدا ہوں اور تنگی دفع ہو جائے گمان رزق ملے۔

زوالِ محبتِ دنیا و غلبہ بر دشمن | الْفَتَادُ :- خاصیت، بکثرت اس کا ذکر و حل مقصود از زن کو کرنے سے دنیا کی محبت اور اسوا اللہ کی غفلت دل سے جاتی رہے اور دشمنوں پر غلبہ ہو اور اگر چہیتی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جاوے جو بوجہ سحر کے عورت پر قادر نہ ہو سحر دفع ہو۔

حصولِ غناء و جاہ و قبول | الْوَهَابُ :- خاصیت، بکثرت اس کا ذکر کرنے سے غناء اور قبولیت اور سمیت و بزرگی پیدا ہو اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو چودہ بار کہے یہ مقاصد اس کو حاصل ہوں۔

وسعتِ رزق | الْوَزَّاقُ :- خاصیت، قبل نماز فجر گھر کے سب گوشوں میں دس دس بار کہے اور جو گوشہ سمت قبلہ کے داہنی طرف ہو اس سے شروع کرے تو وسعتِ رزق حاصل ہو۔

آسانیِ امور و نورانیت | الْفَتَّاحُ :- خاصیت، بعد نماز فجر سینہ پر ہاتھ رکھ کر قلب، وسہولتِ رزق کرا، بار پڑھے تو تمام امور میں آسانی ہو اور قلب میں طہارت و نورانیت اور رزق میں آسانی ہو۔

ترقیِ علم و حافظہ | الْيَكِيَّةُ :- خاصیت، اس کی کثرت و مداومت سے حقائق و معارف منکشف ہوتے ہیں اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔

دفع جوع و وسعت رزق | **الْخَائِضُ** :- خاصیت، چالیس روز تک روٹی کے لقمہ پر اس کو لکھ کر کھائے تو بھوک سے تکلیف نہ ہو۔

وسعت رزق | **الْبَاسِطُ** :- خاصیت، نماز چاشت کے بعد سو بار پڑھنے سے رزق میں فراخی ہو۔

فضائے حاجت | **الْخَائِضُ** :- خاصیت، پانچ سو بار پڑھنے سے حاجت پوری ہو۔

امن از ظالم | **الدَّافِعُ** :- خاصیت، ستر بار پڑھنے سے ظالموں سے امن میں ہو۔
دلوں میں ہیبت پیدا ہونا | **الْمُعِزُّ** :- خاصیت، شب و شبہ و شب جمعہ کو

بعد نماز مغرب چالیس بار پڑھنے سے اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔
برائے حفظ از حسد و وصول حق | **الْمُذِلُّ** :- خاصیت، ۵۰ بار پڑھ کر

سربسود ہو کر دعا کرے تو حسد کے حسد سے محفوظ رہے اور جس کا حق دوسرے کے ذمہ آتا ہو اور وہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہو اس کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق ادا کرے۔

اجابت دعا | **السَّمِيعُ** :- خاصیت، جمعرات کے روز بعد نماز چاشت کے پانسو بار پڑھ کر دعا کرے قبول ہو۔

صفائی بصیرت و توفیق نیک عمل | **الْبَصِيرُ** :- خاصیت، بعد نماز جمعہ کے سو بار پڑھنے سے بصیرت میں صفائی ہو اور نیک عمل کی توفیق ہو۔

انکشاف اسرار | **الْحَكَمُ** :- خاصیت، نصف شب کے وقت با وضو حضور قلب کے ساتھ ذرا زیادہ دیر تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو محل اسرار فرمائیں

تسخیر قلوب | **الْعَدْلُ** :- خاصیت، شب جمعہ میں روٹی کے تین ٹکڑوں پر

اس آیت کو لکھ کر کھانے سے لوگ مسخر ہو جائیں۔

وسعت رزق و لطف | **الذَّيْفُ** :- خاصیت، ۱۳۳ بار پڑھنے سے رزق

میں وسعت ہو تمام کام لطف سے پورے ہوں۔

انکشاف حالت مخفیہ | **الْخَبِيرُ** :- خاصیت، سات روز تک بکثرت

دورستی حالت مؤذی | پڑھنے سے اخبار مخفیہ معلوم ہونے لگیں گے اور جو کسی مؤذی

کے پنجہ میں گرفتار ہو اس کو بکثرت پڑھتے سے حالت درست ہو جاوے۔

راحت و برکت و پیشہ | **الْحَكِيمُ** :- خاصیت، اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت

و امن سواری و کشتی | پڑھے اس کی سرداری خوب جھے اور راحت سے رہے

اور اگر کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اپنے پیشہ کے آلات و اوزاروں پر ملے تو اس

پیشہ میں برکت ہو اگر کشتی ہو غرق سے محفوظ رہے اگر جانور ہو ہر آفت سے مامون ہے۔

عزت و شفا | **الْعَظِيمُ** :- خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے عزت اور ہر مرض

سے شفا ہو۔

ازالہ بخار | **الْغَفُورُ** :- خاصیت، بخار والے کو تین بار لکھ کر پاندھ دیا

جائے تو بخار جاتا رہے۔

برائے صنیق النفس | **الشَّحُورُ** :- خاصیت، جس کو صنیق النفس یا تکان

یا گرانی اعضاء ہو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پیٹے تو نفع ہو اور اگر ضعیف

البصر اپنی آنکھ پر پھیرے نگاہ میں ترقی ہو۔

جوان شدن ثقل و سلامت | **الْعَلِيُّ** :- خاصیت، اگر لکھ کر بچے کے پاندھ

مسافر و غنا و فقیر | دیا جائے جلدی جوان ہو اگر مسافر اپنے پاس

رکھے تو جلدی اپنے عزیزوں سے آملے اگر محتاج ہو تو غنی ہو جائے۔
ترقی علم و معرفت و الفت زوجین | **الْكَبِيرُ**۔ خاصیت، بکثرت ذکر کرنے
 سے باب علم و معرفت کشادہ ہو اور اگر کھانے کی چیز پر پڑھ کر زوجین کو کھلایا جائے
 تو باہم الفت ہو۔

حفظ ازخوف | **الْحَفِیْظُ**۔ خاصیت، اس کا ذکر کرنے والا یا لکھ کر پاس رکھنے
 والا ہر خوف سے محفوظ رہے اور اگر درندوں کے درمیان سو رہے تو ضرر نہ پہنچے۔
حصول قوت و دفع وحشت | **الْثَّقِیْبُ**۔ خاصیت، اگر روزہ دار اس کو
 مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس سے پانی پیا کرے تو وحشت سفر سے مامون رہے۔
سہولت حساب امن از اہل قرابت | **الْحَسِیْبُ**۔ خاصیت، اگر کسی سے
 نشہ و حساب کا اندیشہ ہو یا کسی بھائی برادری سے کسی معاملہ میں خوف ہوسات روز
 تک قبل طلوع آفتاب و بعد مغرب اس کو بیس مرتبہ پڑھا کرے۔

قدر و منزلت | **الْجَلِیْلُ**۔ خاصیت، اس کو بکثرت ذکر کرنے سے یا مشک
 زعفران سے لکھ کر پاس رکھنے سے قدر و منزلت زیادہ ہو۔

برائے اکرام | **الْكَرِیْمُ**۔ خاصیت، سوتے وقت بکثرت پڑھا کرے لوگوں
 کے قلب میں اس کا اکرام واقع ہو۔

حفاظت مال و عیال | **الْمَرْقِیْبُ**۔ خاصیت، اس کا ذکر کرنے سے مال و
 عیال محفوظ رہے اور جس کی کوئی چیز گم ہو جائے اس کو بہت پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ
 مل جاوے۔ اور اگر اسقاط حمل کا اندیشہ ہو تو اس کو سات مرتبہ پڑھے تو برا قحط
 نہ ہو اور سفر کے وقت جس بال بچہ کی طرف سے فکر ہو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر سات

مرتبہ پڑھے تو وہ مامون رہے۔

برائے مقبولیت | الدَّجِيبُ :- خاصیت، دُعا کے ساتھ اس کا ذکر کرنا موجب قبولیت دعا ہے۔

غناء ظاہری و باطنی | الْوَاسِعُ :- خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے غنا ظاہری اور باطنی حاصل ہوا اور فراخ حوصلگی و بردباری پیدا ہو۔

دفع مصائب | الْحَكِيمُ :- خاصیت، بکثرت ذکر کرنے سے مصائب دفع ہوں اور دروازہ علم و حکمت کشادہ ہو۔

برائے محبت | الْوَدُودُ :- خاصیت، اگر کھانے پر ایک ہزار بار پڑھ کر بی بی کے ساتھ کھاوے تو وہ محب اور فرماں بردار ہو جاوے۔

برائے دفع برص | الدَّجِيدُ :- خاصیت، اگر مبروص ایامِ بین میں روزہ رکھے اور ہر روزہ افطار کے وقت اس کو بکثرت پڑھے انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

برائے علم و حکمت | الْبَاعِثُ :- خاصیت، سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو سو بار پڑھا کرے تو اس کا قلب علم و حکمت سے معمور ہو۔

برائے اطاعت اولاد | التَّهَيِّدُ :- خاصیت، اگر نافرمان اولاد یا بی بی کی پیشانی پکڑ کر اس کو پڑھے یا ہزار بار پڑھ کر دم کرے وہ فرمانبردار ہو جائیں۔

کفایت برائے مہمات | الْحَقُّ :- خاصیت، ایک مربع کاغذ کے چاروں گوشوں میں لکھ کر اس کو مٹھیلی پر رکھ کر آخر شب میں آسمان کی طرف بلند کرے تو

مہمات کو کفایت ہو۔

قضاء حاجت | الْوَعِيلُ :- خاصیت، ہر حاجت کے لئے اس کی کثرت مفید ہے۔

ہمت و قوت و غلبہ بر دشمن | الْقَوِيَّةُ :- خاصیت ، اگر کم ہمت پڑھے باہمت ہو جاوے ، اگر کم زور پڑھے زور آوے اور ہو اگر مظلوم اپنے ظالم کو مغلوب کرنے کو پڑھے وہ مغلوب ہو جاوے ۔

رجوع از فجور | التَّائِبُ :- خاصیت ، اس کے خواص القوی کی مانند ہیں اور اگر کسی فاجر مرد یا عورت پر پڑھا جاوے تو فجور سے باز آوے ۔

محبت و آسانی مشکل | التَّوَلِيُّ :- خاصیت ، جو بکثرت اس کو پڑھے محبوب ہو جاوے اور جس کو کوئی مشکل پیش آوے شب جمعہ میں ہزار بار پڑھے ۔

حصول اخلاق حمیدہ | التَّحْيِيَةُ :- خاصیت ، اس کی کثرت سے اخلاق اقوال و افعال حمیدہ حاصل ہوں ۔

برائے تسخیر | الْمُدْحِصِيَّةُ :- خاصیت ، اگر روٹی کے بیس ٹکڑوں پر بیس بار پڑھے تو خلقت مسخر ہو ۔

حفاظت حمل | التَّمْبِيْثُ :- خاصیت ، حاملہ کے بطن پر آخر شب میں پڑھا تو حمل محفوظ رہے اور ساقط نہ ہو ۔

بھولی ہوئی بات یاد آنے کے لئے | التَّمْعِيْذُ :- خاصیت ، اگر کوئی بات بھول جائے اور یاد کرنے سے یاد نہ آوے تو اس کو بار بار ذکر کرے خواہ تنہا یا میدتی کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ یاد آجاوے ۔

امن از فراق و حیس | التَّمِيْحِيَّةُ :- خاصیت ، جس کسی کو مفارقت کا اندیشہ ہو یا خوف قید کا ہو اس کو بکثرت پڑھے ۔

زوال اسراف و معاصی | التَّمِيْمِيَّةُ :- خاصیت ، جس کو عادات اسراف کی

ہو گئی ہو یا نفس طاعت پر آمادہ نہ ہوتا ہو تو اس کو بکثرت پڑھا کرے۔

نجات از امراض | **الْحَيَّ** :- خاصیت، اس کو پڑھتے سے یا لکھ کر پینے

سے ہر قسم کے امراض سے نجات ہو۔

دفع نرم و آمادگی بر طاعت | **الْقَيُّوْمُ** :- خاصیت، اس کی کثرت سے نیند آ

جاتی ہے اور یا **حَيَّ** یا **قَيُّوْمُ** کو فجر سے طلوع تک پڑھنے سے مستعدی اور آمادگی طاعت

میں حاصل ہو۔

تقویت قلب | **الْمَاجِدُ** :- خاصیت، جو دو آٹھ اس کا قلب منور ہو۔

نور قلب و قطع تعلق خلق | **الْوَاحِدُ الْاَحَدُ** :- خاصیت، اگر ہزار بار

پڑھے تعلق مخلوق کا اس کے قلب سے زائل ہو جاوے۔

حصول آثار صدق و دفع جمع | **الصَّحَّادُ** :- خاصیت، آخر شب میں ایک سو

پچیس بار پڑھے تو آثار صدق و صدیقیت کے ظاہر ہوں اور جب تک اس کا ذکر

کرتا رہے بھوک کا اثر نہ ہو۔

قوت غلبہ بر دشمن | **الْقَادِرُ** :- خاصیت، دو رکعت پڑھ کر اس کو موباد

پڑھے تو قوت حاصل ہو اور دشمن کرتے ہوئے اس کی کثرت کرے تو دشمنوں پر

غالب ہو۔

آسانی تدبیر | **الْمُقْتَدِرُ** :- خاصیت، جب سوکر اٹھے اس کی کثرت کرے

تو جو اس کی مراد ہو اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔

قوت و نجات از معرکہ | **الْمُقَيَّدُ** :- خاصیت، معرکہ میں جا کر پڑھے تو

قوت و نجات ہو۔

توفیقِ توبہ | التَّوْحِيدُ: خاصیت، کثرت سے پڑھے توبہ کے کاموں سے توبہ نصیب ہو۔
مسافر کا اپنے ساتھیوں سے ملنا | الْأَذَلُّ: خاصیت، اگر مسافر ہر جمعہ کو ہزار بار پڑھے تو جلدی اپنے لوگوں سے آملے۔

خروجِ ماحوی اللہ از قلب | الْإِخْرَجُ: خاصیت، اگر ہر روز ہزار بار پڑھے تو ماحوی اللہ دل سے نکل جاوے۔

نورِ ولایت | الظَّاهِرُ: خاصیت، اگر اشراق کے وقت بکثرت پڑھے تو قلب میں نورانیت ظاہر ہو۔

حصولِ انس | الْبَاطِنُ: خاصیت، ہر روز سو بار ایک گھنٹہ تک اس کو پڑھے تو کیفیتِ انس کی حاصل ہو۔

امن از عدو برق | الْوَالِي: خاصیت، اس کی کثرت کو تک اور بجلی سے محفوظ رکھتی ہے۔

رفعت و درستی | الْمُتَعَالِي: خاصیت، اس کے ذکر سے رفعت اور درستی حاصل ہو۔
نشو و نما در نیک بختی | الْبَرُّ: خاصیت، اگر بچے پر سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو نیک بخت اٹھے۔

توفیقِ توبہ و خلاصی از ظالم | التَّوَابُ: خاصیت، بعد نماز چاشت ۳۶۰ بار پڑھے تو توبہ کی توفیق حاصل ہو اور اگر ظالم پر دس بار پڑھے تو اس سے خلاصی ہو۔

انتقام از ظالم | الْمُنتَقِمُ: خاصیت، جو شخص اپنے ظالم دشمن سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو اس کو کثرت سے پڑھے اللہ اس سے انتقام لے لیں۔

عفو ذنوب و رضا | الْحَقُّو: خاصیت، بکثرت ذکر کرے تو گناہوں کے معافی

اور رضائے الہی حاصل ہو۔

غفۃ کم کرنے کے لئے | الْوَدْفُ :- خاصیت ، اپنے غفۃ کے وقت یا دوسرے شخص کے غفۃ کے وقت دس بار اس کو پڑھے اور دس بار درود شریف تو غفۃ کو سکون ہو جائے۔
حصول مال | مَالِكِ الْمُلْكِ :- خاصیت ، اس پر مداومت کرے تو مال و توغری حاصل ہو۔

عزت و بزرگی | اَدْءَالِ الْجَلَالِ دَالِ الْكُوَامِ :- خاصیت ، اس کے ذکر کرنے سے عزت و بزرگی حاصل ہو۔
دفع دوسو سہ | الْمُقْسِطُ :- خاصیت ، اس کی مداومت سے عبادت میں دوسو سہ نہ آوے۔

اجتماع باجباب حصول مراد | الْجَامِعُ :- خاصیت ، اس کی مداومت سے دست یابی کم شدہ | اپنے مقاصد و اجاب سے مجتمع رہے اور جس کی کئی چیز کم ہو جاوے اس کو پڑھے تو مل جاوے۔
دفع مرض و بلا | الْغَنِيُّ :- خاصیت ، کسی مرض میں یا بلا کے وقت پڑھا کرے تو وہ دفع ہو۔

غنا و محبت زوجہ | الْمُعْنِي :- خاصیت ، ہر روز ہزار بار پڑھے تو توغری حاصل ہو اور اگر مشغولی جماع کے وقت خیال سے پڑھے تو بیوی اس سے محبت کرنے لگے۔
حصول مراد | الْمُعْطِي :- خاصیت ، ہر مراد کے حاصل ہونے کے لئے مفید ہے۔
ایضاً | الْمَا نِعُ :- خاصیت ، جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے اس کو صبح و شام پڑھا کرے مراد حاصل ہو۔

امِنِ اِزْضَرَرِ | اَلْضَّارُّ :- خاصیت ، شب جمعہ میں سو بار پڑھے تو ضرر سے محفوظ رہے۔

حصولِ نفع | اَلْتَّافِعُ :- خاصیت ، جس چیز سے نفع حاصل کرنا ہو اس کو دل سے پڑھے۔

تورَانِیتِ قلب | اَلتَّوَسُّ :- خاصیت ، اس کے ذکر سے نورِ قلب حاصل ہو۔

قَمِ صَحیح | اَلْهَادِی :- خاصیت ، اس کے ذکر سے یا لکھ کر پاس رکھنے سے بعیرت اور قَمِ صحیح پیدا ہوا اہل حکومت کے لئے بھی مناسب ہے۔

برائے حاجتِ روائی | اَلْبَدِیْع :- خاصیت ، اس کو دس ہزار بار پڑھے تو حاجت پوری ہو ہر ضرر و غم سے خلاصی ہو۔

دفعِ ضرر و غم | اَلْبَاقِ :- خاصیت ، ہزار بار پڑھے تو ضرر و غم سے خلاصی ہو۔

دفعِ حیرت | اَلْوَآرِث :- خاصیت ، درمیانِ مغرب و عشاء کے ہزار بار پڑھے تو حیرت دفع ہو۔

قبولِ اعمال | اَلدَّرَسِیْد :- خاصیت ، بعدِ عشاء کے سو بار پڑھے تو عمل مقبول ہو۔

حفظِ از تکالیف | اَلصَّبُوْم :- خاصیت ، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے سو بار پڑھا کرے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کتابوں میں اور بھی بے شمار خواص مذکور ہیں مگر اخلاص و اعتقاد کے ساتھ اس قدر بھی کافی ہے۔

مسائل ضروریہ

- (۱) بے وضو آیات قرآنی کا غذا یا طشتری پر لکھنا جائز نہیں۔
- (۲) بلا وضو اس کا غذا یا طشتری کا چھونا جائز نہیں پس چاہئے لکھنے والا اور طشتری یا تعویذ کا ہاتھ میں لینے والا اس کو دھونے والا سب با وضو ہوں ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔
- (۳) جب تعویذ سے کام ہو چکے تو اس کو قبرستان میں کسی جگہ دفن کر دے۔
- الْحَمْدُ لِلَّهِ اَعْمَالِ قرآنی کا تیسرا حصہ بھی بمقام چوتھا دل ۲۲/ محرم ۱۴۲۰ھ کو اختتام کو پہنچا۔

بسم اللہ اور درود شریف کے مجرب خواص

از

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

بسم اللہ کے احکام و مسائل | مسئلہ :- بہت سے صحابہ و تابعین اور آئمہ مجتہدین کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک سورہ نمل میں تو ایک آیت کا جز و ضرور ہے، کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے بار بار نازل ہوئی ہے۔ اسی اختلاف کے پیش نظر فقہاء رحمہم اللہ نے یہ احتیاطی حکم دیا ہے کہ تعظیم و تکریم کے جتنے احکام آیات قرآنی کے متعلق ہیں مثلاً بے وضو اس کو چھونا جائز نہیں۔ ان سب احکام میں بسم اللہ کا وہی حکم ہے جو تمام آیات قرآن کا ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز میں قرأت کے بجائے صرف بسم اللہ پراکتفا کرے تو نماز نہ ہوگی (قنطرہ بحوالہ مجتبیٰ و محیط)۔

مسئلہ :- فقہاء کی تصریح ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے یہاں تک کہ ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو سنت ادا نہ ہوگی۔ اس لئے امام کو چاہئے کہ پورے مہینہ کی تراویح میں کسی روز کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً بھی پڑھ دے تاکہ یہ آیت پڑھتے (اور سننے) دونوں

میں آکر بلا خلاف قرآن مکمل ہو جائے۔

مسئلہ :- نماز کی ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور بہت سے دوسرے آئمہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے (شرح منیہ) اسی لئے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہئے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

مسئلہ :- سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام اعظمؒ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ اس لئے ترک اولیٰ ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں تو ترک ہی اولیٰ ہے مگر سری نمازوں میں پڑھنا اولیٰ ہے (کیری شرح منیہ)۔

بسم اللہ کے بعض خواص مجربہ

ہر مشکل اور ہر حاجت کے لئے | (۱) جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک ہزار پورا کرنے کے بعد دو دشریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعائیں پھر ایک ہزار اور اسی طرح پڑھے کہ مقصد کے لئے دعا کرے۔ اسی طرح بارہ ہزار پورے کر دے تو انشاء اللہ ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوگی۔

(۲) بسم اللہ کے حروف کے عدد سات سو چھیاسی ہیں جو شخص اس عدد کے موافق سات روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لئے

و دعا کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ مقصد پورا ہوگا۔

تسخیرِ قلوب | جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھ سو مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔
حفاظتِ از آفات | جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو ایک سو تیرہ مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا مجرب ہے۔

چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت | سونے سے پہلے اکیس مرتبہ پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے۔
ظالم پر غلبہ | کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔

ذہن اور حافظہ کے لئے | سات سو چھیاسی مرتبہ پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پیئے تو ذہن کھل جائے اور حافظہ قوی ہو جائے۔

حب کے لئے | سات سو چھیاسی مرتبہ پانی پر دم کر کے جس کو پلائے اس کو گہری محبت ہو جائے (ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا تو وبال کا خطرہ ہے)۔
حفاظتِ اولاد | جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اکسٹھ مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ مجرب ہے۔
کھیتی کی حفاظت | اور برکت کے لئے | ایک سو ایک مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کھیت میں دفن کر دے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے اور اس میں برکت ہو۔

حکام کے لئے | بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا غدیہ پانسو مرتبہ لکھے اور اس پر
 ڈیڑھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو
 حکام مہربان ہو جائیں اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے۔

درد سر کے لئے | اکیس مرتبہ لکھ کر درود الے کے گلے میں یا سر پہ باندھ دیں
 تو درد سر جاتا رہے۔ بسم اللہ کی خاصیات اور برکات بہت زیادہ ہیں ان میں
 سے چند بقدر ضرورت لکھی گئی۔ واللہ المستعان وعلیہ۔

درود شریفؐ کے بعض خواص

سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتاب ”زاد السعید“ میں درود شریف کی بعض خصوصیات اور دینی و دنیوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے نقل فرمائی ہیں، اخیر میں لکھی جاتی ہیں۔

قبولیت و عباد | (۱) حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رُک کر رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھو (معجم اوسط، طبرانی)

(۲) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعاء آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور پر نہیں جاتی جب تک اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود نہ پڑھو۔ (ترمذی)

مال میں برکت و زیادتی | حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو اس کو چاہئے کہ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرے۔ اللھم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات۔

پاؤں سو جانے کا علاج | حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اس کا پاؤں سو گیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ

محبوب ہو اس کا نام لے اس نے کہا ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ اُسی وقت سن اتر گئی۔
اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا پاؤں سو گیا، انھوں نے
بھی یہی عمل کیا، فوراً اُس اتر گئی، (حاشیہ حسن حصین)

بھٹولی ہوئی چیز یاد آجانا | ابو موسیٰ مدینی نے بسند ضعیف روایت کیا ہے
کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ
پر درود بھیجو وہ چیز یاد آجائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ (فضائل درود و سلام)۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت | درود شریف کی سب سے
زیادہ لذیذ اور شریف تر خاصیت یہ ہے کہ اس کی بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے، درود شریف کی کثرت سے عموماً
یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے
آزمایا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”ترغیب اہل السعادت“
میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں گیارہ
بار آیۃ الکرسی اور گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ اور بعد سلام تنو بار یہ درود شریف
پڑھے، انشاء اللہ تین جمعے نہ گزرنے پاویں گے کہ زیارت نصیب ہوگی، وہ
درود شریف یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
اَصْحَابِہٖ وَسَلَّم

نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں

بعد الحمد کے ۲۵ بار قتل ہوا اللہ اور بعد سلام کے ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، دولتِ زیارت نصیب ہوگی، وہ درود یہ ہے۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيَّ الْمَسِيحِی الْاُمْتِی

تنبیہ ضروری | مگر اس دولت کے حاصل ہونے کی بڑی شرط قلب کا شوق سے پڑھنا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ہے، فضائل درود و سلام، نماز روزے وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنے والے، اور حرام و نا جائز کے معاملے میں بے پروائی کرنے والوں کو صرف الفاظ پڑھنے سے یہ دولت حاصل نہیں ہوگی۔
اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ۔

عالم بیداری میں زیارتِ رست مود

شیخ عبدالوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بزرگوں کی حکایات لکھی ہیں کہ ان کو بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں کھلی آنکھوں ہوئی ہے، شیخ بلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جلالین کو ۴۵ مرتبہ یہ دولت عظمیٰ بیداری میں نصیب ہوئی، ان بزرگوں سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتلایا کہ درود شریف کی کثرت اس کا سبب ہے۔ (انتہی)

مگر یہ ظاہر ہے کہ اس مقام بلند تک پہنچنے کے لئے زراذبان جمع خرچ کافی نہیں، دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت اور زیارت کا شوق ہونا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ ان حضرات کا حال تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ اپنے فضل سے

بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمادیں۔
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَقِيَّةِ وَصَلِّ عَلَى
 أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

بندۃ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

برکت اسم "محمد" | اس وقت کتاب کا حوالہ یاد نہیں، مگر متقدمین علماء میں
 سے کسی نے لکھا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اس وقت اس
 کا نام "محمد" رکھ دیا جائے تو وہ بچہ لڑکا ہوگا ۱۲ ناشی

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر

دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی جہازِ نبویؐ نزائے نبوت و طہر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر معینی اردو	تفسیر ابن کثیر
تفسیر القرآن	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
قرآن اور ماحول	قرآن اور ماحول
قرآن ناموس و تہذیب تمدن	قرآن ناموس و تہذیب تمدن
لغات القرآن	لغات القرآن
جائزہ القرآن	جائزہ القرآن
تاکوس الفاظ القرآن المکرم	تاکوس الفاظ القرآن المکرم
مکتبہ نبویؐ فی مناقب القرآن	مکتبہ نبویؐ فی مناقب القرآن
امستار قرآنی	امستار قرآنی
قرآن کا بائیں	قرآن کا بائیں

حدیث

تفسیر الہدیٰ ترجمہ و تفسیر از	تفسیر الہدیٰ ترجمہ و تفسیر از
تفسیر الہدیٰ	تفسیر الہدیٰ
جامع ترمذی	جامع ترمذی
سنن ابوداؤد و شریعہ	سنن ابوداؤد و شریعہ
سنن ابوالکلیب	سنن ابوالکلیب
معارج الہدیٰ ترجمہ و تفسیر	معارج الہدیٰ ترجمہ و تفسیر
مشکوٰۃ شریف ترجمہ و تفسیر	مشکوٰۃ شریف ترجمہ و تفسیر
ایض الصالحین و تفسیر	ایض الصالحین و تفسیر
الادب المفرد	الادب المفرد
بغیۃ الحق	بغیۃ الحق
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر

ناشر دارالاشاعت
اردو بازار ایم ای جناح روڈ
کراچی پاکستان
دیکھ لو اوروں کی کتب دستیاب ہیں